

يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ • إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ • قَدْ آن

قلب سليم

قلب سليم

قُرْآنِیَاں

اللہ کی قدر دانی

گناہ کی نحوست

حکیم خدا کا ڈرنا

بیت پر قیت بہر شریعت

حضرت مولانا پیر خواجہ الفیقاہ احمد علی نقشبندی

223 سنت پورہ، فنسیل آباد

+92-041-2618003

مکتبہ پیر الفقیہ



فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۳۱	① گناہ کی نحوست	۸	پیش لفظ
۳۱	گناہ کی نحوست	۱۱	تقریظ
۳۱	گناہ کیا ہے؟	۱۲	تقریظ
۳۱	خشیت کیا ہے؟	۱۳	① قلب سلیم
۳۲	خشیت سے تقویٰ کا حصول	۱۳	تین اہم دن
۳۴	واصل باللہ کیسے ہوں؟	۱۴	مال کی غلط فہمی
۳۵	گناہوں سے پرہیز ضروری ہے؟	۱۴	اولاد کی غلط فہمی
۳۶	متقی کیسے بنیں؟	۱۵	قلب سلیم اور اس کی اہمیت
۳۷	دین اسلام کا حسن	۱۷	ایک عمدہ مثال
۳۸	ارنی کس نے کہا؟	۱۸	علمی نکتہ
۴۰	عابد اور متقی میں بہتر کون؟	۱۹	دل کیسے صاف ہو؟
۴۰	اللہ سے مدد مانگیں	۲۰	دل کے دروازے
	اکابرین کا اور آج کے طلباء کا	۲۰	پہلا دروازہ
۴۱	موازنہ	۲۵	سوچ کا اثر دل پر
۴۳	گناہ کا وبال لازمی	۲۶	دوسرا دروازہ
۴۴	گناہوں کا وبال اہل و عیال پر	۲۷	سچ اور سچائی کا معاملہ
۴۶	چچی توبہ کر لیں	۲۹	تیسرا دروازہ
۴۸	بنانے والے سے بنا کر رکھیں	۲۹	چوتھا دروازہ
۴۹	آج کا موقع		

قلب سلیم

صاحبِ دل، مفکرِ اسلام، پیرِ طریقت رہبرِ شریعت
محبوب العلماء و الصالحین

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی علیہ

کے دل کو گرمانے والے خطبات کا مجموعہ

جو صوبہ سرحد کے شہر لقمبر، بابل، (ضلع کرک)

اور سرانے نورنگ کے سہ روزہ دورے

کے دوران مختلف اجتماعات میں بیان فرمائے۔

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
	☆☆☆	۱۰۱	﴿۵﴾ حکم خدا کو نہ توڑنا
		۱۰۱	حکم خدا کو نہ توڑنا
		۱۰۱	بندے کو عاجزی تہمتی ہے
			احکام شریعت کی عظمت دل میں
		۱۰۲	پیدا کیجیے
			مالک کی اطاعت جانوروں سے
		۱۰۲	سیکھیے
		۱۰۵	نکتہ چینی کی گنجائش نہیں
		۱۰۶	مالک کی شکرگذاری ایاز سے سیکھیے
		۱۰۸	اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو
			حکم خدا پر آنکھیں بند کر کے عمل
		۱۰۹	کیجیے
		۱۱۰	حکم خدا بالکل نہ توڑیں
		۱۱۱	ہٹ دھری چھوڑ دیجئے
		۱۱۱	ہٹ دھری شیطانی عمل ہے
		۱۱۲	غلطی کی معافی مانگئے
		۱۱۲	حضرت آدم علیہ السلام کی صفت
		۱۱۵	اپنے مسئلے دنیا میں سلجھالیجئے
		۱۱۶	حقوق العباد اور رد وظیفے
		۱۱۷	اللہ والوں کا معاملہ
		۱۱۸	سیدنا نوح علیہ السلام کا معافی مانگنا
		۱۱۹	اسی دنیا میں معافی مانگ لیں

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۷۶	کام، کام، کام	۵۰	اپنا محاسبہ خود کیجئے
۷۷	ایک اصول	۵۱	ماستر پیس
۷۸	عشق و وفا کی داستانیں	۵۳	﴿۶﴾ اللہ تعالیٰ کی قدر دانی
۸۰	تعجل کے کہتے ہیں؟	۵۳	اللہ تعالیٰ کی قدر دانی
	فضل و کمال اور حاسدین لازم	۵۳	عمل شروع کرنے کی قدر دانی
۸۱	و ملزوم	۵۶	مال خرچ کرنے کی قدر دانی
۸۳	اہل حق اور قربانیاں	۵۷	روزہ دار کی قدر دانی
۸۴	صحابہ کرام کی قربانیاں	۵۸	ناقص مال کی قدر دانی
۸۵	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنائے شہادت	۵۹	ایمان کی قدر دانی
۸۶	علماء حق کی شان	۶۱	نبی ﷺ کی خدمت کی قدر دانی
۸۶	سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی	۶۳	توبہ کی قدر دانی
۸۸	ایک صحابیہ کا جذبہ جہاد	۶۴	ہم نا قدرے
	حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کا جذبہ	۶۷	تکبر کے بول کا وبال
۸۹	جہاد		اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ دینے کی
۹۰	حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ	۶۹	قدر دانی
۹۱	حضرت ضرار رضی اللہ عنہ کا واقعہ	۷۲	اللہ کے احسان کی قدر دانی کیجئے
۹۲	استقامت کی ضرورت	۷۲	کریم آقا کے در پہ آجائیے
۹۲	ماؤں کی تمنائیں	۷۵	﴿۷﴾ قربانیاں
۹۳	قربانیاں دیتے رہنا	۷۵	قربانیاں
۹۵	علمائے دیوبند کی قربانیاں	۷۵	دار العمل
۹۶	مولانا جعفر تائیسریؒ کا واقعہ	۷۶	زندگی کی اہمیت
		۷۶	قرب قیامت کی نشانی

پیش لفظ

ہر دور اور ہر زمانے کے علماء و صلحاء کو یہ فکر رہتی ہے کہ مخلوق خدا جنہم کی بھڑکتی ہوئی لگ سے بچ جائے۔ چنانچہ اپنی اپنی بساط کے مطابق حتی المقدور اس کوشش میں لگتے رہتے ہیں غافل مخلوق کو اللہ کی اطاعت و بندگی میں لگایا جائے۔ کہیں درس ہو رہے ہیں، کہیں ممبر پہ بیٹھے وعظ فرما رہے ہیں، کئی اپنے بستر کندھوں پر اٹھائے ڈور در پھر رہے ہیں ہوتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالی کو تو یہ فکر بہت ہی زیادہ دامن گیر ہے۔ آپ کو امانت کی یہ فکر کسی کروٹ چین ہی نہیں لینے دیتی۔ شہر شہر، قریہ قریہ بلکہ ملک ملک کے سفر پر ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں۔ دنیا بھر کے ملک گویا آپ کے لئے کسی بستی کے گلی کو چے ہیں۔ یہ جان کر حیران رہ جاتے ہیں کہ ابھی امریکہ کے دورے سے گھر پہنچے، تین دن نہیں گزرنے پائے تو ساؤتھ افریقہ، دس دن بعد واپسی تو تین بعد پھر مکہ مدینہ۔

کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بہ در کبھی ان کے گھر

غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں گزر گیا

اندرون ملک دورے فرماتے ہیں تو کراچی سے کشمیر اور سوات یگانورہ تک، کسی کو نہ کو تشنہ نہیں رہنے دیتے۔ سال 2003ء، 13، 12، 15 مارچ کو حضرت صاحب نے ضلع کرک (صوبہ سرحد) کا دروہ فرمایا۔ حضرت صاحب نے لتمبر، باہل خیل اور سرانے نورنگ میں پانچ بیانات ارشاد فرمائے۔ کثیر تعداد میں علماء طلباء اور عوام الناس تو بہ تاب

ہو کر حضرت صاحب سے بیعت ہوئے۔

حضرت صاحب بہت مؤثر بیان فرماتے۔ آپ کا بیان دل و دماغ پہ چھا جایا کرتا ہے۔ سننے والا یہی تصور کرتا ہے کہ حضرت صاحب مجھے ہی نصیحت فرما رہے ہیں۔ اسی محفل میں آدمی کو اپنی کوتاہیوں، غفلتوں کا بھرپور احساس ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بدبو آنے لگتی ہے اور ہزاروں کا مجمع اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ تاب ہو کر یوں بلک بلک کر روتا ہے جیسے کچھ لوگ جنازہ اٹھاتے وقت روتے ہیں۔

ان سب بیانات کو جب کیسٹ سے کاغذ اور کمپیوٹر پہ چڑھایا گیا تو حضرت صاحب سے اجازت مانگی گئی، کیونکہ احباب اس کے چھاپنے کا پر زور مطالبہ کر رہے تھے۔ اس لئے کہ حضرت صاحب کے ان پانچوں بیانات میں سے ہر بیان آدمی کے دل کی دنیا بدلنے کے لئے کافی تھا۔ چنانچہ حضرت صاحب نے اجازت مرحمت فرمائی۔

میں اپنے بھائی محمد یونس صاحب نقشبندی کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے انتھک کوشش کی، بہت کم وقت میں کمپوزنگ فرمائی اور جناب پروفیسر محمد قاسم محمود صاحب نقشبندی مجددی (کان اللہ لہ عو ضا عن کل شیء) کا یہ احسان صرف مجھ پر ہی نہیں ہر قاری پر ہے، جنہوں نے خلوص دل سے اس کو چھاپنے کی حامی بھری۔ ورنہ جو لوگ حضرت صاحب کے اس دورے میں حاضر نہیں تھے وہ ان بیانات سے کیسے مستفید ہوتے۔

ہم حضرت صاحب کے خلفاء کرام جناب مولانا سیف اللہ جان صاحب اور جناب مولانا گل رئیس خان صاحب کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے مفید مشوروں، دعاؤں اور توجہات سے نوازا۔ نیز جماعت نقشبندیہ سرانے نورنگ کے احباب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیز لگائی اور یہ مشکل کام ممکن ہوا۔

اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں حضرت حافظ ذوالفقار احمد صاحب مدظلہ العالی جیسا شیخ عطا فرمایا جو جامع علوم شریعت و طریقت، نہایت متقی اور پرہیزگار انسان ہیں اور

پنے متعلقین پر بڑے شفقت فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضرت حب کو اپنا شایان شان وصل نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم ائم رکھے، آمین ثم آمین۔

محمد ظفر اللہ خان نقشبندی

سرائے نورنگ فون 09261-350364

تقریظ

حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالی جس انداز میں اندرون و بیرون ملک طریقت و شریعت کیلئے کام کر رہے ہیں۔ وہ اکیلے ایک جماعت پر بھاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی مساعی کو قبولیت سے نوازے۔ حضرت صاحب اپنے بیانات کے ذریعے سے سالکین اور عام مسلمانوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ آپ کے بیانات میں وہ جذب ہوتا ہے کہ سامع اثر لئے بغیر نہیں رہتا۔ ان بیانات کا قاری خود کو آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوا محسوس کرتا ہے۔ حضرت صاحب تقریباً ۳۵ کتب کے مصنف و مؤلف ہیں۔ اور اب تک تقریباً ۳۵ ممالک کے تبلیغی دورے فرما چکے ہیں۔ اپنے آبائی شہر جھنگ میں ایک بڑا منصوبہ مہجد الفقیر الاسلامی کے نام سے شروع کر رکھا ہے۔ اللہ پاک اس کو تکمیل تک پہنچائے اور اس کو ہر قسم کی نظر بد سے بچائے رکھے۔

قلب سلیم حضرت صاحب مدظلہ کے دورہ کرک اور سرائے نورنگ کے ان بیانات کو مجموعہ ہے جو حضرت جی دامت برکاتہم نے مختلف مساجد اور مدارس میں وعظ فرمائے۔ میں ان سب احباب کے لئے دعا گو ہوں جنہوں نے ان مواعظ کو یکجا کر کے چھاپنے میں مدد کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کے فیوضات سے ان سب احباب کو، جماعت نقشبندیہ (سرائے نورنگ، بنوں، کرک) اور تمام مسلمانان عالم کو مستفیض فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا سیف اللہ جان صاحب

(خلیفہ مجاز حضرت جی دامت برکاتہم)

صدر مدرس مدرسہ عالیہ تعلیم الاسلام سرائے نورنگ

قلب سلیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَا بَعْدُ
 فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَ سَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
 وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

تین اہم دن:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا۔ نہ بیٹے کا
 آئیگے۔ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ جو انسان سنورا ہوا دل لایا وہ کام آئے گا
 انسان کی زندگی میں تین دن بڑے اہم ہوتے ہیں۔ وہ دن جب وہ اس دنیا میں آیا،
 دن اس کی زندگی کا بڑا اہم دن ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو مس کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ کو
 نیک بندہ ہو جو جہنم سے بچے اور بندے کے کان میں اللہ کا نام پونچائے۔ اس کی ا
 برکت ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کا یہ دن گزر چکا۔

زندگی کا دوسرا اہم دن وہ ہے جب انسان اس دنیا سے واپس جائیگا۔ اس کی مو
 کا دن، یہ دن بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس وقت بھی کوئی نیک متقی آدمی مو
 ہو جو ہمیں گلے کی تلقین کرے۔

اور تیسرا وہ دن جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا۔ اس لئے

تقریظ

پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ کی شخصیت مسلمانان
 میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک
 بلخ کے سلسلے میں دورہ فرماتے رہتے ہیں۔ نیز اندرون ملک مختلف شہروں کو اپنا وقت
 یہ ہیں تاکہ سالکین و متوسلین آپ کی صحبت اور مواظبت سے مستفیض ہو سکیں۔ اس سلسلے
 بنوں نورنگ کے احباب نے حضرت کو دورے کی درخواست دی۔ جو آپ نے منظور
 لی۔ اپنے تین روزہ دورے کے دوران حضرت صاحب نے اپنے گرانقدر بیانات
 سالکین کی تربیت فرمائی۔

چنانچہ جماعت نقشبندیہ سرائے نورنگ کے درو دل رکھنے والے احباب محمد ظفر اللہ
 صاحب، پروفیسر محمد قاسم محمود صاحب اور محمد یونس خان نقشبندی نے حضرت صاحب
 خلیفہ مجاز شیخ الحدیث مولانا سیف اللہ جان صاحب کی زیر نگرانی نہایت عرق ریزی
 ان بیانات کو حرف بحرف قلمبند کیا۔ حضرت جی دامت برکاتہم کے فیوضات عام
 نے کے لیے اور عوام الناس تک ان کا فائدہ پہنچانے کے لیے۔ ان بیانات کو شائع
 اللہ رب العزت ہم سب کو اور پورے عالم کو آپ کے ارشادات اور صحبت سے
 فیض فرمائے۔ نیز تمام جماعت نقشبندیہ سرائے نورنگ کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا
 ہے۔ آمین۔

عاجز مولانا گل رئیس خان

(خلیفہ مجاز حضرت جی دامت برکاتہم)

خادم جامعہ دارالہدیٰ جامن روڈ بنوں

فون 0928-621966

تین دنوں کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا .

جو آیت تلاوت کی گئی اس میں تیسرے دن کا تذکرہ ہے اور یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم دن ہوگا۔ جب اللہ رب العزت کے سامنے بندے کی پیشی ہوگی۔ قرآن مجید میں اس دن کو یومِ نقابین فرمایا گیا نقابین کا مطلب فیصلہ، فیصلے کا دن، کھرے کھوٹے کی پہچان کا دن۔ ناپ تول کا دن، فتح اور شکست کا دن۔ انسان اس دن یا تو زندگی کی بازی جیت جائیگا یا زندگی کی بازی ہار جائیگا۔ وہ تیرے لئے ہار جیت کا دن ہے تو فرمایا اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔

مال کی غلط فہمی:

مال کا تذکرہ اس لئے کیا کہ عام طور پر انسان کے دماغ میں یہ بات تھسی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں ہر مشکل کا حل ڈھونڈ سکتا ہوں۔ مال کے ذریعے میں ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہوں لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ مال سے اس دنیا میں بھی ہر کام نہیں ہوتا۔ آخرت میں تو بالکل اس سے کام نہیں ہوگا۔ آپ خود سوچیے مال سے انسان عینک تو خرید سکتا ہے بینائی تو نہیں خرید سکتا، کتاب تو خرید سکتا ہے علم تو نہیں خرید سکتا۔ نیا بستر تو خرید سکتا ہے میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا۔ اچھا لباس تو خرید سکتا ہے حسن و جمال تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان خضاب تو خرید سکتا ہے شباب تو نہیں خرید سکتا اور مال سے انسان کسی کی خوشامد تو خرید سکتا ہے کسی کے دل کی محبت تو نہیں خرید سکتا۔ تو مال سے تو اس دنیا میں بھی ہر کام نہیں ہوتا۔ آخرت میں تو بالکل کوئی کام نہیں ہوگا۔

اولاد کی غلط فہمی:

جو بیٹوں کا تذکرہ کیا اس لئے کہ جس آدمی کے کئی بیٹے ہوں جو ان العمر، کام کر رہے

ہیں، اچھے عہدوں پر فائز ہیں۔ اس کے دل میں بڑا ارمان ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ میں فلاں بیٹے سے کہہ دوں گا، فلاں بیٹا میرا کام نکال دیگا۔ اس کو بڑا ناز ہوتا ہے۔ اس کی بھی نفی کر دی کہ قیامت کے دن بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو پھر کیا چیز کام آئیگی اِلَّا مَنْ آتَى اللّٰهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ جو سنورا ہو ادل لایا وہ دل اسے کام آئیگا۔ قیامت کے دن کامیابی کا پیمانہ انسان کا دل بنے گا۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھیں گے۔

قلب سلیم اور اس کی اہمیت:

قلب سلیم کہتے ہیں کہ جس دل میں ماسوا اللہ کی محبت نہ ہو۔ جو دل گناہوں کے داغ سے پاک ہو اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے اگر توبہ کر لی تو صاف ہو گیا اور اگر دوبارہ گناہ کر لیا تو پھر ایک داغ لگ جاتا ہے حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے وہ حالت ہو جاتی ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس دل کو سنورانے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اِنَّ فِي جَسَدِ بَنِي آدَمَ لَمَضْغَةٌ، بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک ٹوٹھڑا ہے اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ جب وہ بگڑتا ہے پورے جسم کے اعمال بگڑتے ہیں۔ اور جب وہ سنورتا ہے پورے جسم کے اعمال سنورتے ہیں۔ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ تو دل سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور دل بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔

حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں۔ میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں تو قلب عبد اللہ، عرش اللہ ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے جیسے ہم بیت کہتے ہیں نا۔ کیوں کہتے ہیں بیت اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں..... نہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ کا وہاں پر ورود ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں اگر بالفرض پتھر کا وہ کمرہ ہٹا دے وہ جگہ پھر بھی

بیت اللہ رہے گی۔ پھر بھی اس جہت میں نماز پڑھنے کا حکم ہوگا۔ تو جس طرح وہاں تجلیات پڑتی ہیں جب انسان اپنے دل کو سنوارتا ہے انسان کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ورود ہوتا ہے۔ اس لئے اس دل پر محنت کی ضرورت ہے حدیث پاک میں آیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا اِلَى اَمْوَالِكُمْ۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں کو اور نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو وَ لٰكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ وَ اَعْمَالِكُمْ۔ وہ تو دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کے دل پر ہے کہ انسان کا دل اس کی محبت سے لبریز ہے یا نہیں۔ دل بنانے سے بن جاتا ہے اور غفلت سے بگڑ جاتا ہے۔ اس لئے انبیائے کرام نے دنیا میں آکر دل کو محنت کا میدان بنایا۔ انبیاء کرام نے عقلوں پر محنت نہیں کی انہوں نے دلوں پر محنت کی۔ اس لئے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ وحی کا تعلق دل کے ساتھ ہے الہام کا تعلق دل کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو انسان کے جسم میں سب سے قیمتی نعمت اس کا دل ہے۔ ایسی زندگی ہو کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں سما جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں آجائے۔ جب دل میں محبت ہو تو پھر اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ نماز میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تلاوت میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اخلاق و عادات میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ رفتار، کردار، چال ڈھال ہر چیز میں اس محبت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے اعمال کریں میری محبت کے ساتھ۔ قرآن مجید میں فرمایا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهِ مِسْكِيْنَ وَ يُعِيْمُوْنَ وَ اَسِيْرًا۔ اب یہ علی حُبِّهِ کا لفظ ہمارے لئے پیغام ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی محبت میں کریں۔ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَ اَبْغَضَ لِلّٰهِ وَ اَتَىٰ لِلّٰهِ وَ مَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ۔ دیکھا ایمان کامل ہوتا ہے اس سے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے

کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو ٹٹولیں گے۔

ایک عمدہ مثال:

آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر بڑے بڑے صندوق ہوتے ہیں جن میں رضائیاں، کبیل، عورتیں رکھ دیتی ہیں۔ ان کو تالا ہی کوئی نہیں لگاتا۔ اس لئے کہ اس کی قیمت ہی کوئی نہیں۔ جب کہ ایک چھوٹا سا بکس ہوتا ہے ”جیولری بکس“ سونے کا بکس۔ جس میں عورتیں اپنا زیور رکھتی ہیں۔ وہ تالے میں پھر اس کو ایک بڑے بکس میں تالے میں۔ پھر کمرے کو تالا، تو تین تین تالوں میں رکھتی ہیں..... کیوں؟ اندر کی چیز قیمتی ہے۔ جو انسان غافل ہے اس کی حیثیت اس بڑے بکس کی سی ہے جس کے اندر بے قیمت چیز بھری پڑی ہے۔ کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ اور جس دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھری ہوئی ہے اس کی مثال ایسے جیسے اس کے اندر سونا بھرا ہوا ہے۔ اسی لئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ”او مغل بادشاہو! تمہارے خزانے سونے، چاندی اور ہیرے جو اہرات سے بھرے ہوئے ہیں اگر تمہارے تمام خزانے اکٹھے کئے جائیں تو بھی یہ ولی اللہ کے دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ میرے سینے میں وہ دل ہے جو تمہارے سب خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے“۔ تو واقعی جب انسان دل پر محنت کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی گزرگاہ بن جاتا ہے۔ اس کی رحمت انسان کے دل میں سما جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو سنواریں۔ اس لئے کہ پروردگار عالم نے قیامت کے دن دل کو دیکھنا ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر کوئی سیب خریدنا چاہے اور وہ گل گیا ہو تو روپے کے بدلے میں آپ وہ داغ والا سیب قبول نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگ ایک روپے کے بدلے میں داغی سیب قبول نہیں کرتے تو اللہ رب العزت اپنی جنتوں کے بدلے داغی دلوں کو کیسے قبول فرمائیں گے۔ ہر انسان اپنے گھر کو صاف دیکھنا

چاہتا ہے۔ کسی بھی پڑھے لکھے انسان کے گھر کے اندر گندگی ہو، بو آ رہی ہو، نجاست پڑی ہو تو اس کو کتنا غصہ آتا ہے کہتا ہے کہ صاف ستھری جگہ ہو۔ اس لئے گھر میں عورتیں دو گھنٹے، چار گھنٹے روز گھر کی صفائی کرتی ہیں۔ اگر انسان اپنے گھر کو صاف چاہتا ہے تو وطن بھی اپنے گھر کو صاف چاہتے ہیں۔ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اے بندے میرے گھر کو صاف کر دے۔

علمی نکتہ:

اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ گھر صاف ہو تو وہ خود صاف کر دے۔ پھر بندے کے ذمے کیوں ہے کہ صاف کر دے۔ جب چاہتے ہیں کہ میرا گھر صاف ہو تو صاف کر دے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نظر گھر صاف کر دے گی۔ تو یہاں علماء نے ایک نکتہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بندے کی حیثیت میزبان کی سی ہے اور پروردگار عالم کی حیثیت مہمان کی ہے۔ اور گھر کا صاف کرنا مہمان کے ذمہ نہیں میزبان کے ذمے ہوا کرتا ہے۔ اس لئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس گھر کو صاف کریں۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا پسند آیا (کہ اس دور میں استاد کا مشاہرہ پانچ یادس روپے ہوتا تھا) حضرت نے فرمایا کہ اگر میرے پاس مال ہوتا، صاحب استطاعت ہوتا اس شعر لکھنے پر ایک لاکھ نعام دیدیتا۔ اور وہ شعر کیا تھا؟ بہت سادہ۔ شعر یہ لکھا

ہر تمنا دل سے رخصت ہوگی

اب تو آجا اب تو خلوت ہوگی

محبوب خلوت چاہتا ہے تو جب ہم دنیا کی محبت دل سے نکالیں گے اور خلوت ہوگی پھر محبوب بھی اسی جگہ نظر ڈالنا پسند فرمائیں گے۔ تو ہمیں اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔

دل کیسے صاف ہو؟

اب دل کیسے صاف ہو؟ یہ ذکر اللہ سے صاف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر سے دل صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا

لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَتٌ وَ ثِقَالَتُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ

”ہر چیز کیلئے ایک پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ تعالیٰ کی یاد ہے“

جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کریں گے اتنا ہی دنیا کی محبت دل سے نکلے گی اور اللہ رب العزت کی محبت آئے گی۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس کو جب بتایا گیا کہ یہ پیغام ہے اور اس کے لوگوں نے کہا کہ آپ جو کہیں گی ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو وہ آگے سے کہنے لگی

إِنَّ الْمَلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَ جَعَلُوهَا أَعزَّةً أَهْلِهَا
أَذَلُّه.

کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فساد مچا دیتے ہیں اور وہاں جو معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے۔ مگر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بہترین تمثیل ہے سمجھنے کیلئے۔ کہ اگر اِنَّ الْمَلُوكَ سے مراد اللہ رب العزت کا نام لیا جائے جو مالک الملک ہے۔ اور قریہ سے مراد دل کی بستی لی جائے۔ تو پھر اس کے معنی یوں بنیں گے۔ اِنَّ الْمَلُوكَ إِذَا دَخَلُوهَا قَرْيَةً جب اس مالک الملک کا نام اس دل کے قریہ میں داخل ہوتا ہے بستی میں داخل ہوتا ہے۔ أَفْسَدُوهَا انقلاب بر کر دیتا ہے، وَ جَعَلُوهَا أَعزَّةً أَهْلِهَا أَذَلُّه اور دنیا جو دل میں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے نکال دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا نام ہمارے لئے تریاق ہے۔

دل کے دروازے:

دل کے چار دروازے ہیں ان دروازوں سے انسان کے دل میں نور بھی آسکتا ہے اور ان دروازوں سے انسان کے دل میں شر بھی آسکتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ چاروں دروازوں پر کنٹرول رکھے۔ جب آپ کمرے میں آئیں اور دیکھیں کہ فرنیچر پہ مٹی پڑی ہے کپڑوں پہ مٹی پڑی ہے، برتن پہ مٹی پڑی ہے تو فوراً آپ دیکھیں گے کہ کوئی دروازہ، کھڑکی یا روشندان کھلا رہ گیا تب ہی مٹی آئی ہے۔ تو سب دروازے بند کریں گے کہ مٹی اندر نہ آئے اس طرح اگر مومن اپنے دل کے دروازوں کو بند رکھے، کنٹرول رکھے تو اس کے دل میں گناہوں کی مٹی اور میل نہیں ہوتی۔

پہلا دروازہ:

یہ دروازے کون سے ہیں۔ سب سے بڑا دل کا دروازہ انسان کی آنکھیں ہیں۔ آنکھ اگر اچھی چیز دیکھے گی تو دل میں نور آئیگا۔ مثلاً بیت اللہ شریف کو دیکھا دل میں نور آتا ہے..... قرآن مجید کو دیکھا دل میں نور آتا ہے..... ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے دل میں نور آتا ہے..... علماء صلحاء کے چہرے کو دیکھا دل میں نور آتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے سے دل میں نور آتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات اللہ والوں کے چہروں پہ نظر پڑتی ہے تو بندے کے دل کی گرہ کھل جاتی ہے۔ اور انہی آنکھوں کو اگر غلط استعمال کیا جائے تو دل کے اندر شر آتا ہے۔ مثلاً شریعت نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ان کی طرف دیکھنے سے انسان کے دل میں ظلمت آتی ہے۔ اس لئے حکم دیا مومن کو کہ دو چیزوں کی طرف مت دیکھیں۔ طلباء کے لئے علمی نکتہ۔ دو چیزوں کی طرف مت دیکھیں،

سب سے پہلے نامحرم کی طرف مت دیکھیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ.

ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔

نیچا رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ اس لئے کہ جب نیچا رکھیں گے تو دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ حکمت دیکھئے۔ سبحان اللہ! قرآن مجید کا اعجاز ایسا کہ ایک ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے اس میں حکمت ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات درمیان میں آگئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم تین ہوتے ہو تو وہ چوتھا ہوتا ہے اور چار ہوتے ہو تو پانچواں وہ ہوتا ہے۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ.

وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔

عجیب بات یہ دیکھئے کہ بات شروع کی کہ جب تم تین ہوتے ہو تو وہ چوتھا ہوتا ہے۔ حالانکہ سرگوشی تو دو بندے کرتے ہیں۔ آپس میں بیٹھ کر تو بات چیت دو سے شروع ہوتی ہے۔ تو رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب دو ہوتے ہو تو وہ تیسرا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ دوسری جگہ فرمادیا تھا کہ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ.

ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا۔ تو چونکہ ثالث و ثالثہ فرمادیا تھا۔ اس لئے دو کی بات نہیں کی۔ کیا فرمایا کہ جب تم تین ہوتے ہو تو کیا ہوتا ہے سبحان اللہ! حیران ہوتے ہیں۔ یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا ایک ایک لفظ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا معرفتیں بھری ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ موٹی بات کر دی۔ اچھا اگر کہتے کہ فلاں کو نہ دیکھیں فلاں کو نہ دیکھیں تو نگاہیں اونچی رہتیں نا۔ تو اگر ایک مرتبہ نہ دیکھتے تو کہہ دیتے کیا کریں جی دوسری مرتبہ نظر پڑگئی۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہی صاف کر دیا۔ بھی تم نگاہیں اوپر اٹھاؤ ہی نہیں، نیچی رکھو۔ جب انسان نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنا لے گا تو پھر اس کے لئے نگاہوں کو غیر محرم سے ہٹانا آسان

ہو جائیگا۔ اس لئے نگاہوں کو نیچا رکھیں۔

دیکھیں! شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں اولادِ آدم کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، چار اطراف سے اس کو درغلاؤں گا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ ان چار سمتوں سے تو شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے اب محفوظ سمتیں دو تھیں۔ یا اوپر کی سمت یا نیچے کی سمت تھی۔ اب چلتے ہوئے انسان اوپر آسمان کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ ٹھوکر کھائے گا اور خود گر جائے گا۔ تو ایک سمت باقی رہی وہ کونسی؟ نیچے والی۔ لہذا! قرآن مجید میں یہی فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُؤْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اسی میں ہمارے لئے فائدہ ہے۔ نگاہوں کو نیچا رکھیں۔

دوسرا مال کی طرف نظر اٹھانے پر منع فرمایا۔ ارشاد فرمایا:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ.

یہ جو کافروں کو مال منال دیا گیا ہے اے محبوب ﷺ! اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔

زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو ایک جمال کو دیکھنے سے منع کیا اور ایک مال کو دیکھنے سے منع کیا۔ اور جمال وہ جو خلاف شرع ہو۔ ورنہ جہاں شریعت نے اجازت دی انسان اس کو دیکھے۔ تو دو چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا۔ اور واقعی جو بندہ کسی کے مال پہ نظر رکھے اس کے دل کے اندر کبھی بھی شکر کی کیفیت نہیں ہوتی۔ وہ شکر سے محروم ہو جاتا ہے۔

دو چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا اور ایک چیز کو دیکھنے کا حکم دیا۔ یہ بھی مزے کی بات۔ قرآن مجید میں ایک چیز دیکھنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد فرمایا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو صبر دیجئے۔ اپنے آپ کو بٹائیے۔ اپنے آپ کو تھمی رکھیے۔ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَفْشِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ان لوگوں کے ساتھ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لئے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ۔ ان کے چہروں سے نگاہیں نہ

ہٹائیے۔ اگر نگاہیں ہٹائیں گے۔ تُسْرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ والوں، باخدا لوگوں کی طرف نظر جانے کا حکم دیا گیا۔

آج کے دور میں فحاشی، عریانی عام ہو گئی تو یہ آنکھوں کا گناہ عام ہو چکا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باقی گناہ کرنے میں انسان کو ذلت کا اندیشہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر چوری کی..... اندیشہ کہ پکڑا جاؤں گا، ذلت ہوگی۔ جھوٹ بولا، دل میں ڈر ہوتا ہے پتہ چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ کہیں گے دیکھو بھئی ظاہری شکل تو مومنوں والی ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ حتیٰ کی زنا کیا تو ڈر ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ساری زندگی کے لئے بدنام ہو جاؤں گا۔ ہر گناہ کے پیچھے بدنامی کا خوف ہوتا ہے لیکن یہ بد نظری ایسا گناہ ہے کہ جس کا دوسروں کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لئے بدنامی کا ڈر ہی کوئی نہیں۔ اب طالب علم جارہے ہیں کسی کو دیکھ بھی لیا تو طالب علم صاحب طالب علم ہی..... ہیں کسی کو کیا پتہ؟ قاری صاحب نے دیکھ بھی لیا تو کسی کو کیا پتہ؟ قاری صاحب ہی ہیں۔ حاجی صاحب نے دیکھ بھی لیا کسی کو کیا پتہ؟ حاجی صاحب ہی ہیں۔ یہ ایسا گناہ کہ جس پر بدنامی کا ڈر کوئی نہیں۔ اس لئے آسان ہے۔ اور اگر بندے کو پتہ ہو کہ میں جس غیر کی طرف دیکھ رہا ہوں اس کا کوئی قریبی مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر کبھی اس کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا۔ اب ڈر ہے سزا کا۔ اس لئے جب تک دل میں اللہ رب العزت کا خوف نہ ہو انسان غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو نہیں ہٹا سکتا۔ یہ ایسا گناہ ہے۔ اور اس کی ظلمت دل پر، سیدھی دل پر پڑتی ہے۔ اس لئے یہ بد نظری کا گناہ عام ہونے کی وجہ سے آج دلوں میں ظلمت عام ہے۔ خیالات ہر وقت اٹنے سیدھے..... حتیٰ کہ نماز کھڑے پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر بھی ان کو گناہوں کے خیال آرہے ہیں۔ اس گناہ سے بچنے کے لئے بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور یہ گناہ نقصان بھی زیادہ دیتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اگر بالفرض بیوی دیکھے اپنے خاوند کو کہ وہ کسی غیر عورت کو دیکھ رہا تو ہے بیوی کو کتنا غصہ آئے گا۔ یا خاوند دیکھ لے کہ

الفرض اس کی بیوی غیر مرد کو دیکھ رہی ہے تو خاوند کو کتنا غصہ آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں غیرت ہوتی ہے۔ غیرت نہیں برداشت کرتی کہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ تو جس طرح بندے کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اس لئے اس گناہ پہ پکڑ جلدی ہو جاتی ہے کئی مرتبہ۔

جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے کسی اچھی شکل والے لڑکے کو دیکھا۔ پوچھنے لگا حضرت ایسے چہرے بھی جہنم میں چلے جائیں گے (کوئی کافر لڑکا تھا) فرمایا تیری نظر بد ہے ابھی تو بہ کر لے ورنہ اس کا وبال پڑے گا۔ وہ کہنے لگا نہیں میرا گناہ کا ایسا خاص رادہ تو تھا نہیں۔ میں نے تو ذرا اچھی شکل سمجھ کے دیکھا۔ تو اس نے شیخ کی بات کو ہلکا سمجھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس گناہ کی نحوست ایسی پڑی کہ بیس سال کے بعد قرآن مجید جو یاد تھا اس کو مکمل بھول گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے۔ یہ تو کریم ہیں نا کہ ہم آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں وہ پھر بھی بینائی سلامت رکھ دیتے ہیں۔ ورنہ کبھی کبھی اپنی بے نیازی کا اظہار جو کر دیتے ہیں تو پھر ایک نظر انسان کے لئے برباد ہو جانے کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ ایک نظر۔

علماء نے لکھا ہے کہ مصر کی جامع مسجد میں مؤذن اذان دینے کے لئے اوپر چڑھا۔ مسائے میں عیسائی رہتے تھے۔ نئے آکے بیٹھے تھے ان کی جوانی عمر لڑکی کوئی کپڑے وغیرہ خشک کرنے کے لئے ڈال رہی تھی۔ اس پر نظر پڑی۔ اس کا حسن دیکھ کر حیران ہوا۔ تعارف نہیں۔ کہنے لگا ابھی اذان دینے میں پانچ منٹ باقی ہیں میں ذرا تعارف تو کروں کہ یہ ہمسائے میں کون آکے بیٹھے ہیں۔ نیچے اتر ان کے پاس گیا۔ ان سے تعارف ہوا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ مکان کرایہ پر ملا۔ بات ذرا آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ وہ ان کی بیٹی ہے اور ابھی کنواری ہے جوانی عمر ہے۔ تو مؤذن صاحب نے بات بڑھادی کہ میں

چاہتا ہوں جی کہ آپ کے ساتھ ہمارے گھریلو تعلقات بھی ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا آؤ۔ وہ اس کو لیکر چھت کے اوپر جانے لگا کہ اس بندے کا جو پاؤں پھسلا، گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت آگئی۔ مینارے پر چڑھا تھا اذان دینے کیلئے۔ اک بری نظر پڑی نیچے اتر اور کافر کے ساتھ رشتہ داری جوڑنے کے لئے اوپر چڑھنے لگا ایمان سے محروم ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

جو چاہیں گے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ علماء نے لکھا کہ شرک بھی اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ تو جہاں غیرت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیاہ غیور ہیں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اَنَا أَعْيَرُ وَلِدَ آدَمَ وَاللَّهُ أَعْيَرُ مِنِّي۔ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں۔ تو یہ بدنگاہی یہ بہت نقصان دینے والا گناہ ہے۔ نگاہوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔

سوچ کا اثر دل پر

اور انسان کی سوچ سے یہ نگاہ غلط بھی ہو جاتی ہے، یہ نگاہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ سوچ کا انسان پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ لیٹے، بیٹھے، چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں۔ تاکہ گناہوں کی طرف سوچ ہی نہ جائے۔ تو گناہوں کی سوچ سے انسان بچے۔ یہ جو ہوتا ہے نہ برا خیال دل میں لانا اور اس کو دل میں جمانا، یہ انسان کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ ہر وقت دل میں اللہ کی یاد رہے دھیان رہے۔ تو انسان کے دل کا پہلا دروازہ انسان کی آنکھیں ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت کی لذت نصیب ہو جائے۔ اس کو چاہئے کہ آنکھوں کی کھڑکیاں غیر سے بند کر

لے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں سب سے زیادہ سریع الحركت چیز انسان کی پلکیں بنائی ہیں۔ یہ انسان کی آنکھوں کے اوپر کا ڈھکنا سب سے جلدی حرکت کرتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی صاحب بہانہ نہ کر دے اللہ! میں نے تو دیکھ کے آنکھ بند کرنا چاہا بن بند کرتے کرتے دیر لگی نظر پڑ گئی تھی۔ پلک جھپکنا سب سے کم وقت بتانے کے لئے ب معیار بن گیا۔ کہتے ہیں نا ”پلک جھپکنے کی دیر میں“۔ اتنے تھوڑے وقت میں پلک بند ہوتی ہے۔ اس لئے بند ہوئی کہ پروردگار چاہتے ہیں کہ میرا بندہ غیر کی طرف دیکھے ہی نہ۔

س لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ نابینا جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا مگر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، صبر کیا اس اندھے پن کے اوپر، وہ صابر رہا۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں عام مومنوں کو مہینے میں ایک دفعہ دیدار ہوگا یا جمعہ کے دن دیدار ہوگا یا دن میں ایک مرتبہ دیدار ہوگا لیکن یہ نابینا جب جنت میں جائیگا اس کو ہمہ وقت دیدار نصیب دے گا۔ اور یہ کیوں ہوگا۔ اس کا اکرام کیا جائیگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں میرے غیر کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا اس لیے اب یہ جب چاہے میرا دیدار کر سکتا ہے۔ ہر وقت اس کو دیدار نصیب ہوگا۔ اس لیے نظر اٹھا کر دیکھنے سے بہت ریں ہم۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کے دل کی نورانیت بالکل ختم ہو جاتی۔ ایک مرتبہ کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے تو جو لوگ اپنے دل کو بنانا اور سنوارنا چاہتے ہیں ان حضرات کو چاہیے کہ اس کو بہت زیادہ اہم سمجھیں، اپنی نگاہوں کو غیر سے بچانا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ غیر محرم عورت ہو۔

دوسرا دروازہ

دوسرا دروازہ انسان کی زبان ہے۔ جو کچھ انسان زبان سے بولتا ہے اس کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ اگر زبان سے قرآن پڑھا تو دل میں نور آیا۔ اور اگر اسی زبان سے کسی کیساتھ لڑتا ہوں تو دل کے اندر ظلمت آگئی۔ کسی کی غیبت کی دل میں ظلمت آگئی۔ جھوٹ بولا

دل میں ظلمت آگئی۔ زبان کے غلط استعمال سے دل میں ظلمت آتی ہے۔ اور زبان کے صحیح استعمال سے دل میں نور آتا ہے۔

سچ اور سچائی کا معاملہ

اس پر بھی نظر کریں کہ ہم اپنی زبان کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سچ بولنا اور ایک ہوتا ہے جھوٹ نہ بولنا۔ دونوں میں فرق ہے کئی دفعہ بندہ سچ تو بول رہا، بتا رہا ہے لیکن دوسرے کو مفہوم غلط پہنچ رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ایک کمرے کا نام لاہور رکھا، دوسرے کا کراچی، تیسرے کا پشاور، اب ٹیلیفون آیا، جی وہ تو لاہور گئے ہوئے ہیں۔ اپنے ذہن میں تو وہ سچ بول رہا ہے لیکن دوسرے کو تو آگے پیغام جھوٹ مل رہا ہے۔ اس لئے شریعت نے جو مکارم اخلاق بتائے اس میں سچ کو دو حصوں میں رکھا ہے، ایک سچ بولنا اور ایک سچائی کا معاملہ کرنا۔ تو سچ بولنا الگ چیز ہے، سچائی کا معاملہ کرنا الگ چیز ہے۔ کئی مرتبہ بندہ سچ بول رہا ہوتا ہے لیکن سچائی کا معاملہ نہیں کر رہا ہوتا۔ شریعت نے دیکھو کیسے پتہ صاف کیا۔ سچ بولنا، سچائی کا معاملہ کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے سچ بولنا، ہمارے مشائخ سچ بولنے پہ زور دلوانے کی بجائے اس پہ زور دیتے ہیں کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ سچ بول کے بھی بندہ کئی مرتبہ غلط مفہوم پہنچو دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا اس پہ محنت کرو کہ میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ اور الحمد للہ ہمارے مشائخ کی صحبت میں سالگیں 33، 33 سال گزارتے ہیں اور آج دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ارادے سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب آپ محنت کرنا شروع کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اختیار جھوٹ نکل جاتا ہے۔ ذرا کسی کے ناراض ہونے کا ڈر ہو گیا غلط بول گئے، ذرا کسی کی ڈانٹ کا ڈر ہو گیا غلط بول دیا۔ آج کل کے طلبہ نے اس کا نام بہانہ رکھا ہوا ہے۔ جھوٹ کو نئے نئے نام دے دیئے۔ تاکہ جائز نظر آئے۔ یہ نفس کی شرارتیں ہیں۔ یہ بہانہ نہیں

ہوتا یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء! جھوٹ نہ بولنے پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پوائنٹ کی اہمیت کو سمجھئے۔ سارا دن اپنے آپ یہ دھیان رکھیے کہ میں جھوٹ تو نہیں بولتا۔ اور محنت کریں جو بولیں اپنے کانوں سے سننے کی کوشش کریں۔ کئی دفعہ تو بند زبان سے گالیاں بھی نکال دیتا ہے۔ اس کو کہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ خود اپنی زبان سے لفظ نکالتا ہے اپنے کان نہیں سنتے۔ یاد رکھنا! جس شخص کے اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو اس کے اپنے کان نہیں سنتے جو اتنا قریب ہے۔ تو وہ کان کیسے سنیں گے جو بعید ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ آپ یہ خود اثر نہیں ہوتا لوگوں پہ کیا اثر ہو۔ یہی تو فرق ہے۔ اللہ والے جب کچھ کہتے ہیں وہ خود بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ اس لئے جب وہ لوگوں کو بات کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ بھی دل کے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے۔ ہر وقت نظر رہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ نے غلط بیانی کی۔ اللہ کے سامنے استغفار کریں۔ یہ چیز بہت فائدہ دے گی۔ یاد رکھیں! جو انسان اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے رب کریم اس کا نام اپنے صدیقین کی لسٹ میں لکھوا لیا کرتے ہیں۔ جو انسان اپنے علم و ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس پہ محنت کریں کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ بس! ہر وقت نظر رہے طالب علم کی اس پر، سالک کی نظر رہے کہ میری زبان سے جو نکل رہا ہے سچ ہونا چاہئے۔ اور یہ انتہائی مشکل کام ہے۔

س ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق

یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

اللہ والوں کا طریقہ یہی رہا ہے سچ بولتے ہیں۔ یاد رکھنا! جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے گا ہمیشہ سچ اس کو جا کے پکڑ لے گا۔ سچ بولنے کا ایک تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو یاد نہیں

رکھنا پڑتا کہ میں نے اس کو کیا کہا تھا۔ جھوٹ بولے گا تو یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے پہلے اس کو کیا کہا تھا۔ اس لیے جب دوسری مرتبہ پوچھو تو جھوٹ کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو سچ بولنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ میں نے کس بندے کو کیا کہا تھا۔ جب سچ بولیں گے تو وہی کچھ کہیں گے۔ تو پہلی بات نگاہوں کا پرہیز، اور دوسری بات جھوٹ بولنے سے پرہیز، غیبت کرنے سے پرہیز۔ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔

تیسرا دروازہ:

تیسرا دروازہ انسان کے کان۔ جب کان غلط چیزیں سنتا ہے اس سے بھی دل میں اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیقی سننے سے دل میں گناہ کے خیال اس طرح جنم لیتے ہیں جیسے بارش برسنے سے زمین میں سے کھیتی نکلتی ہے۔ اب گھروں میں ٹی وی لا کے رکھ دیتے ہیں۔ ڈرامے، ٹی وی، کیبل، ڈش، پہلے زمانے میں اینٹینے ہوتے تھے ٹی وی کے۔ کہ لعنت اترتی تھی تو پھسل جاتی تھی۔ اب آج کل ڈش آگنی ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے لعنت کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے الٹا رکھا ہوتا ہے یوں کر کے، کہ لعنت آ کے جمع ہوتی ہو اس کے اندر ساری۔ تو جب گھر کی بچیاں موسیقی سنیں گی تو ان کے دل کے اندر غلط خیال پیدا نہیں ہونگے۔ تو نبی اکرم ﷺ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ موسیقی کے سننے سے دل میں زنا کی خواہش اس طرح پیدا ہوتی جس طرح بارش کے برسنے سے زمین میں کھیتی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے طلباء کو چاہیے کہ بھی اس گناہ کے مرتکب نہ ہوں۔ تین دروازے۔

چوتھا دروازہ:

انسان کی سوچ، انسان کا دماغ، انسان کے خیالات یہ چوتھا دروازہ ہے۔ ذہن میں جو خیالات رہیں گے دل پر اسی کا اثر ہوگا۔ جو نیک باتوں کو سوچے گا تو دل پر نیک اثر

گناہ کی نحوست

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَّمَ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

و قال تعالى في مقام آخر

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. (فاطر: ٤٣)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَ سَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

گناہ کیا ہے؟

چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنا، نبی ﷺ کی مبارک سنت سے روگردانی کرنا۔ ہر مومن کو چاہیے کہ گناہوں سے پرہیز کرے۔ ایک ہے نیکیوں کا زیادہ کرنا، ایک ہے گناہوں سے بچنا۔ دونوں کام ضروری ہیں لیکن اگر تقابل کیا جائے تو گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے بہ نسبت نقلی کام کرنے کے۔ نقلی عبادتیں زیاد کرنا وہ درجہ نہیں رکھتی جتنا کہ گناہوں سے بچنا اہم اور ضروری ہے۔

خشیت کیا ہے؟

گناہ کی مثال بچھو کی مانند ہے اور بچھو نقصان دیتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ سائبر

ہوگا۔ جو اٹی سیدھی باتوں کو سوچے گا تو اس کا اثر ویسے ہی ہوگا۔ تو اپنی سوچ کو پاک کر لیجیے۔ سوچ کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ پروردگار عالم ہمیں ان چار دروازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ لیٹے، بیٹھے، چلتے پھرتے ان دروازوں کے دھیان رکھیں۔ اور ان سے اندر ظلمت نہ جانے دیں۔ انشاء اللہ تھوڑی سی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی نور سے دل منور فرمادیں گے۔ رب کریم ہمارے دل قلب سلیم بنا دیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

نقصان دیتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ کبھی کسی نے چھوٹے بچھو کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ چھوٹا ہے۔ چھوٹے سے بھی ڈرتے ہیں۔ کبھی کسی نے چھوٹے انگارے کو اس لیے نہیں اٹھایا کہ یہ چھوٹا ہے، ڈرتے ہیں۔ جیسے چھوٹے بچھو سے ڈرتے ہیں، چھوٹے انگارے سے ڈرتے ہیں، چھوٹے سانپ سے ڈرتے ہیں۔ ایسے ہی مومن چھوٹے گناہوں سے بھی ڈرتا ہے کہ وہ نقصان دہ ہے۔ سانپ، بچھو اور انگارے کا نقصان تو کم ہے لیکن گناہ کا وبال اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا نقصان زیادہ ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو عنوان دیدیں اس پہ معلومات رکھتا ہو، جو موضوع چھیڑ دیں وہ خوب اچھا بیان کر لیتا ہو؟ نہیں عالم اسے نہیں کہتے۔ عالم کہتے ہیں اس شخص کو جس پر گناہوں کے نقصانات اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں۔ جس شخص پر گناہوں کے نقصانات جتنا زیادہ واضح ہیں، کھلے ہوئے ہیں وہ شخص اتنا بڑا عالم ہے۔ اس لیے جب گناہوں کے نقصانات زیادہ کھلیں گے تو وہ اتنا زیادہ پرہیز کرے گا۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرے گا۔ اسی کا دوسرا نام خشیت ہے۔

خشیت سے تقویٰ کا حصول

ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

علماء ہی ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں

یہ خشیت ہوتی ہے۔ ہم نے ڈاکٹروں کو دیکھا کہ ان کو چربی والے کھانے دو، پراٹھے دو، تو باوجود اس کے ان کو بیماری نہیں ہوتی، پرہیز کرتے ہیں۔ نہیں کھاتے کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں جی ہمیں ان کے نقصانات کا پتہ ہے۔ اور جس بندے کو اس کے نقصانات کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس سے دل کی شریانیں بند ہوتی ہے۔ وہ

صبح دوپہر شام پراٹھے کھاتا ہے، وہ دبا کے چمپی کباب کھاتا ہے۔ بھلے دل کی شریانیں بند ہوتی پھریں، تو جس کو جتنا پتہ ہے جسم کے بارے میں کہ یہ چیز نقصان دہ ہے وہ اتنا زیادہ بچتا ہے۔ ڈاکٹر لوگوں کو دیکھا کہ یہ باہر کے علاقے میں جاتے ہیں تو نکلے کا پانی بھی نہیں پیتے۔ کہتے ہیں جی اس میں بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں۔ اس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم تو بوتل کا صاف پانی پییں گے۔ پرہیز کرتے ہیں۔ تو جس کو جتنا زیادہ کسی چیز کے نقصان کا پتہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اس سے ڈرتا ہے۔ ڈاکٹر لوگ جب ہسپتال میں مریضوں کے پاس جاتے ہیں دستانے بھی پہنتے ہیں، ناک پہ ماسک لگاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بیمار کے قریب رہ کر بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ احتیاط کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد کیا؟ جس کو جتنا زیادہ کسی چیز کے نقصانات کا پتہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اس سے ڈرتا ہے۔

بجلی کی تار جا رہی ہو کبھے سے تو کسی انجینئر سے کہیں، الیکٹریکل والے سے کہیں ذرا اس کو ہاتھ لگاؤ۔ کہہ دے گا کیا میں بیوقوف ہوں۔ کہیں ایک دفعہ لگاؤ، کہے گا جناب! بجلی ایک دفعہ بھی معاف نہیں کرتی پہلی دفعہ ہی پکڑ لیتی ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے اس کے اندر کرنٹ ہے۔ جب کہ عام آدمی دھوکہ کھا جائے گا۔ اس کو کچھ نظر جو نہیں آتا۔ اسی طرح عالم سمجھتا ہے کہ گناہوں میں ایسی نحوست ہے ان کے مرتکب ہونے سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے وہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ ڈرتا رہتا ہے۔

ڈر ہوتا ہے دو طرح کا ایک بچوں والا ڈر، کہ بچے نے کوئی شیشے کا برتن توڑ دیا۔ اب ماں سے ڈر رہا ہے کہ امی کو پتہ چلے گا تو مجھے تھپڑ لگیں گے، یہ بھی ایک ڈر ہے۔ اور ایک ڈر یہ ہے کہ ہواں کی ماں کو اپنے میاں سے ہے۔ اس کی ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا میاں انتہائی شفیق، باخلاق، نیک، متقی، پرہیزگار انسان ہے۔ اس نے مجھے ہر سہولت

ما ہوئی ہے۔ میں عزتوں بھری زندگی گزار رہی ہوں، صاحب اولاد ہوں۔ اب رے میاں نے کہا ہوا ہے کہ فلاں رشتہ دار کو تم نے گھر میں نہیں آنے دینا۔ اب اگر وہ نتہ دار آ کے دروازہ کھٹکھٹائے تو وہ بیوی کبھی دروازہ کھولے گی؟ کبھی نہیں کھولے گی اس کو پتہ ہے کہ میرے میاں کو پتہ چل گیا تو میری چھٹی ہو جائے گی۔ میں نعمتوں سے روم ہو جاؤں گی۔ یہ جو ڈر ہے ناکسی کے ناراض ہونے کا، اہل علم کے اندر دلوں میں ہوتا ہے۔ کہ اگر ہم نے شیطان کا کہا مان لیا، نفس کا کہا مان لیا اور گناہوں کے مرتکب گئے تو کہیں رب کریم ہم سے اپنی رحمت کی نظر نہ ہٹا دیں۔ کہیں وہ ہمیں اپنے در سے رنہ کر دیں۔ وہ پروردگار بخانا نہ ہو جائے۔ وہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں اور ناہوں سے بچتے ہیں۔ گناہوں سے بچے بغیر کسی بندے کو ولایت کا مقام نہیں مل سکتا جو کبار کا مرتکب ہوتا ہے اور چاہے کہ ولایت کے دروازے بھی میرے اوپر کھل جاؤں۔ اس خیال است و مجال است و جنوں۔

صل باللہ کیسے ہوں؟

اس کی مثال سن لیجئے ایک مرتبہ مسکین پور شریف جانے کا موقع ملا۔ ایک دیوار تھی وہاں سی، طلباء اس کو ذرا اونچا کرنا چاہتے تھے۔ تو کہیں سے سیمنٹ کی بوری لائے بیٹھ لے کے آئے اور انہوں نے خود ہی سیمنٹ لگا کر اس کے اوپر دیوار اونچی بنا دی۔ رکھ عرصے کے بعد اوپر کی جو بنی ہوئی دیوار تھی وہ ساری کی ساری گر گئی وہ ایٹھٹھیں پس میں مضبوط جڑی ہوئی تھیں مگر پہلے والی دیوار کے ساتھ اس کو جوڑ ٹھیک نہ لگ سکا۔ بہ پھر پریشان ہوئے پھر انہوں نے دوبارہ کچھ عرصے کے بعد پیسے جمع کیے پھر سیمنٹ ما بوری لائے پھر کوشش کی۔ جو پہلے ہوا تھا وہ پھر ہوا۔ یہ عاجز وہاں گیا ہوا تھا تو ان سے کچھ طلباء نے کہا کہ سنا ہے آپ انجینئر ہیں آپ بتا دیجئے کہ ہم کہاں سے غلطی

کر رہے ہیں۔ اس عاجز نے ان کو عرض کیا آپ مصالحہ بھی ٹھیک بنا رہے ہیں پانی بھی پورا ڈال رہے ہیں اینٹوں کو بھی گلیا کر رہے ہیں لیکن ایک کوتاہی کر رہے ہیں اور وہ کوتاہی یہ ہے کہ پرانی دیوار کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے موٹی موٹی مٹی اتار دی ہے لیکن اس کو صاف اچھی طرح نہیں کیا۔ آپ لوہے کا برش لے کر وہ جو پرانی دیوار کی اینٹیں ہیں ان کو اچھی طرح رگڑیں۔ حتیٰ کہ میل کچیل مٹی کا بالکل ختم ہو جائے۔ چنانچہ طلباء نے ایسے ہی کیا۔ جب اچھی طرح رگڑ رگڑ کے انہوں نے دیوار کی سطح کو بالکل صاف کیا۔ اب سیمنٹ لگایا دیوار بنائی۔ وہ دیوار بالکل صحیح دیوار کی طرح مضبوط اور یک جا بن گئی طلباء بڑے حیران ہوئے۔ اس عاجز نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان طلباء کو سمجھایا کہ دیکھو! یہاں سے معرفت کی ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب تک یہ اینٹ میلی رہی نئی اینٹ کے ساتھ اس کا جوڑ پکانہ ہو سکا یہی حالت ہمارے قلب کی ہے۔ جب تک کے اوپر گناہوں کی میل مٹی رہے گی اس کا تعلق اللہ رب العزت کی پاک ذات کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو مرضی کوشش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وہاں میل نہیں چلتی۔ ہمیں بھی دلوں کو میل کچیل سے پاک کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں اس لیے یہ ذکر اللہ، یہ میل دھودیتا ہے۔

لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَتُهُ صِقَالَةُ الْقَلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ .

ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ خوب ذکر کر کے اپنے دلوں سے گناہوں کی میل دھو دیجئے۔ تب جا کر واصل باللہ ہونگے۔ تب اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی۔

گناہوں سے پرہیز ضروری ہے؟

سالک کو سب سے زیادہ اس بات پر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گناہوں کا مرتکب

ہو۔ اب ایک عام آدمی کو نزلہ زکام ہے۔ وہ دوائی بھی استعمال کرتا ہے ساتھ اچار بھی کھا رہا ہے اور ٹھنڈا شربت بھی پی رہا ہے تو اس کی بیماری تو نہیں جائیگی۔ کئی دنوں بعد وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب دوائی بھی کھا رہا ہوں فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ الوقایۃ خیر من العلاج۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ آپ پہلے کھٹی چیزوں سے بچیں۔ ٹھنڈی چیزوں سے بچیں تب نزلہ زکام سے جان چھوٹے گی۔ بالکل اسی طرح یہ گناہ ان کھٹی نقصان دہ چیزوں کی مانند ہیں۔ جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے تب تک اللہ تعالیٰ کے وصل کی لذت نہیں پائیں گے۔ آج دلوں کے تالے کیوں لگے ہوتے ہیں؟ دلوں میں محبت الہی کی کیفیات کیوں نہیں آتیں؟ اس لئے کہ گناہوں کی جان نہیں چھوڑتے۔

تمتقی کیسے بنیں؟

وہ طلباء جنہوں نے گھر چھوڑا، دیس چھوڑا، وطن چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے، سارا دن قرآن مجید، حدیث مبارکہ پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اگر ان کے دل میں معرفت کی لذت نہیں تو پھر کب آئے گی؟ اور اگر نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی؟ جو اب وہی ہے کہ یہ سارا دن اپنے دل میں قرآن و حدیث کا نور اکٹھا کرتے ہیں۔ اب عصر کے وقت ذرا بازاروں میں نکل جاتے ہیں۔ سارا جھاڑ و پھیر لیتے ہیں۔ جو سارا دن نور اکٹھا ہوا تھا اس پر نظر پڑی، اس پر نظر پڑی، دو چار ہنسی مذاق کی الٹی سیدھی باتیں کر دیں سب کچھ دے دلا کے خالی واپس آگئے۔ جس مشک کے نیچے سوراخ ہو اس کو ٹوٹی بھی لگا دو وہ نہیں بھرے گی۔ اس لیے کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ سارا کا سارا ضائع جائے گا۔ عام بندے میں اور اولیاء اللہ میں یہ بنیادی فرق ہوتا ہے۔ عزیز طلباء! ذرا ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنے گا فائدہ دیں گی۔ یہ سادی ہیں مگر ثوابی ہیں، فائدہ دیں گی۔ کیا فرق

ہوتا ہے؟ عام بندہ بھی کئی مرتبہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل کو دھو دیتے ہیں۔ ایسی توبہ کر لیتا ہے کئی مرتبہ کہ جب محفل سے اٹھتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں مگر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر گناہ کا مرتکب ہو گیا، جو کچھ آیا تھا ضائع کر بیٹھے۔ وہ حفاظت نہیں کرتے اس نور اور رحمت کی جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔ جبکہ اولیاء اللہ اپنے قلب کی حفاظت کرتے ہیں۔ آنے والے نور اور رحمت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ وہ محافظ بن جاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، بچتے ہیں گناہوں کے موقع سے بھی۔ اور گناہ کے موقعوں سے ڈرنا اور بچنا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ الحلال بین و الحرام بین و بینہما متشبهات۔ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح درمیان میں شبہ والی کچھ باتیں ہیں۔ جو ان شبہ والی باتوں کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے وہ تمتقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔

دین اسلام کا حسن:

تو تمتقی انسان گناہ سے بچنا تو ایک بات، گناہ کے موقع سے بھی بچتا ہے اور یہی دین اسلام کا حسن ہے۔ پہلی شریعتوں نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا اور دین اسلام چونکہ مکمل دین تھا اس نے گناہ کی مبادیات، شروعات سے بھی بچنے کا حکم دے دیا۔ مثلاً شرک سے منع کرنا تھا تو تصویر کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اس لیے کہ تصویر بنے گی تو یہ بڑھتے بڑھتے بالآخر بتوں تک پہنچے گی اور بت پرستی شروع ہو جائے گی تو روکنا شرک کو تھ دروازہ شروع سے بند کر دیا کہ تم تصویر بھی بغیر کسی وجہ کے مت بناؤ۔ اگر کسی زندہ کی تصویر بناؤ گے تو قیامت کے دن تمہیں اس پر سزا ہوگی شروع میں ہی روک دیا۔ ایسا نہیں کر سکتے۔ زنا سے روکنا تھا، تو حکم فرما دیا

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَا. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔

علماء نے لکھا کہ غیر محرم کی طرف ارادے سے دیکھنا، اس سے میٹھی نرم باتیں کرنا یہ بی کی ساری اس کی مبادیات ہیں۔ لہذا شریعت نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ کہہ دیا:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ .

عورتوں کو کہا کہ بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں نرمی پیدا مت کرو۔

ایسی بات کرو کہ سننے والا اگر ذرا چاہتا ہے تو ایک کر کے بند کر دے۔ نپے انداز میں بات کرو۔ موقع ہی نہ دو کسی کو۔ اس لئے کہ بات چیت ہی بات بڑھنے سبب بن جاتی ہے۔ طلباء کہتے ہیں نا، ہم اپنی کزن سے بات کر لیتے ہیں..... بس ت ہی کرتے ہیں۔ بھئی بات ہی سے ہی تو بات بڑھتی ہے اس سے بھی پرہیز ضروری ہے۔

نبی کس نے کہا؟

آپ دیکھئے انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے مگر ان میں سے کسی نے دنیا سے یہ نہیں کہا اے اللہ! ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ وہ ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے دنیا میں کہا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ارنسی انظر بلک۔ اب سوال اٹھتا ہے ایک طالب علم کے ذہن میں ایک نبی کی معرفت اتنی ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ پروردگار کو دنیا میں نہیں دیکھا جاسکتا۔ مگر محبت کا جذبہ ایسا... جوش ایسا..... کہ وہ طور پر پہنچے تو کہہ دیار رب ارنسی انظر ایلک۔ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھئی کیوں کہا؟ مفسرین نے اس کا جواب لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پورے پیغمبروں سے یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کلیم اللہ تھے۔ کوہ طور پر جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے۔ بار بار ہم کلامی کرنے کی وجہ سے ان کے دل میں خیال آیا کہ محبوب حقیقی کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جہاں بار بار بات ہوگی پھر اگلا قدم کیا ہوگا؟

نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا
دونوں انساں ہیں تو کیوں اتنے مجابوں میں ملیں

اس لیے شریعت نے پہلے ہی قدم پر اس راستے کو بند کر دیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَا .

قریب ہی نہ جاؤ۔ اب یہاں سے شریعت کا مزاج سمجھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مومن بندہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کی لمبی چوڑی تعریفیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اس کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ ہر وہ چیز جس سے بھی دل میں خطرہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہوں، میری کیفیت خراب ہوتی ہے، میرا گناہ کی طرف خیال جاتا ہے، ہر وہ کام جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر سکتا ہے اس کام کو چھوڑ دینا۔ یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔

تو مومن گناہ کے موقع سے بھی بچتا ہے۔ دعا مانگتا ہے اے اللہ!!

غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا
کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا
میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا
مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

مومن گناہ کے موقع سے بھی بچتا ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جب تک یہ احتیاء مزاج طالب علم کا نہیں بنے گا اس کو معرفت کا نور نصیب نہیں ہوگا۔ لفظ پڑھیں گے، صرغی نحوی قاعدے یاد ہو جائیں گے مگر جو معرفت ہے مقصود اس علم کا، وہ نصیب نہیں ہوگا۔

دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے

پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے

طبیعت کے اندر سے وہ نعمت نصیب نہیں ہوتی جو اہل اللہ کو حاصل ہوتی ہے۔

گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری۔

مابدا اور مفتی میں بہتر کون؟

دو بندے ہیں ایک لمبی عبادتیں کرتا ہے، رات کی دن کی تسبیحات، مگر شریعت میں احتیاط ہی نہیں کرتا، زبان کی احتیاط نہیں کرتا، آنکھ کی احتیاط نہیں کرتا، کان کی احتیاط نہیں کرتا۔ دوسرا بندہ فقط فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے مگر گناہوں سے بچتا ہے۔ کوئی بھی گناہ علم اور ارادے سے نہیں کرتا۔ جب بھی کسی مفتی سے پوچھیں گے تو مفتی کہے گا ان دنوں بندوں میں گناہوں سے بچنے والے بندے کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ تو گناہ سے بچنا زیادہ ضروری ہے لمبی عبادتیں بعد کی بات ہے۔ تو سالک کو ہر وقت دل بس یہ غم ہو، یہ دل میں فکر ہو کہ میں نے اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی۔

اللہ سے مدد مانگیں:

جب دل میں یہ غم ہو، یہ سوچ ہو اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو پھر اللہ ب العزت اس پر رحمت فرمادیتے ہیں۔ اب بتائیں ہم نے کبھی ایسی رات گزاری کہ ورو کے اللہ سے مدد مانگ رہے ہوں۔ اے مالک میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا آپ پاہیں تو مجھے بچا سکتے ہیں۔ میری حفاظت فرمائیے۔

وَمَا أُبْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي .

اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا بے شک نفس تو برائی سکھاتا ہے، مگر یہ کہ جس پر میرا رب مہربانی کرے۔ (یوسف: ۵۳)

دیکھا گناہوں سے انسان نہیں بچ سکتا إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ جب تک میرے رب کا اس کے اوپر رحم نہیں ہو جاتا۔ رب کریم کا رحم کب ہوتا ہے کہ جب بندہ خود بچنے کی کوشش کرے اور معاملہ اس کے سر سے اوپر ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔

دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت ملی۔ جیسے ہی کہا کسی نے کہ بھئی میں گناہ کیلئے آپ کو یہاں لے کے پہنچی ہوں تَوْقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ۔ فوراً پہلی بات، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی پناہ کے بغیر بندہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ تو دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ! ہم اگر نالائق لوگ نفسانی خواہشات کے غالب آنے پر گناہ کرنے بھی لگیں۔ اللہ! ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیجئے گا، ہمارے ہاتھوں کو پیچھے ہٹا دیجئے گا، ہمیں گناہ سے بچا لیجئے گا۔ تو دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری، اس کے بغیر معرفت کا نور حاصل نہیں ہوتا۔

اکابرین کا اور آج کے طلباء کا موازنہ:

جو کتابیں آج کے طالب علم پڑھتے ہیں ہو بہو یہی کتابیں ہمارے اکابرین نے پڑھیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی صحاح ستہ پڑھیں۔ کوئی اس وقت کی صحاح ستہ جدا نہیں تھی۔ اسی قرآن پاک کی تفسیر پڑھی، ان کے پاس کوئی علیحدہ انوکھا قرآن نہیں تھا۔ جو آج دورے کا طالب علم حدیث اور تفسیر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ان حضرات نے بھی یہی کچھ پڑھا۔ پھر ہر طالب علم قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں بنتا؟ جب ایک جیسی کتابیں ہیں تو ہر طالب علم انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں بنتا؟ ہر طالب علم محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں بنتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں تو انہوں نے یہ پڑھیں مگر انہوں نے کتابوں کے ساتھ گناہوں سے بچ کر تقویٰ کی زندگی گزار کر اس علم کا نور سینے میں لے لیا تھا۔ ان کے سینے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے خزینے بن گئے۔ اس لئے درجے پاگئے اور آج دورہ حدیث میں پہنچنے کے بعد، پھر بھی طالب علم کی کیفیات صحیح نہیں ہوتیں۔ اگر یہ عوام الناس کا مجمع ہوتا تو یہ عاجز شاید کسی اور Topic (موضوع) پہ گفتگو کرتا۔ ارادنا اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ Topic آرزو

طلباء کے لئے انتہائی اہم ہے۔

بے ادبی کا یہ حال ہو چکا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس عاجز کے پاس دورہ حدیث کے طالب علم کو اس کا والد لے کر آیا حضرت میرا بچہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے مگر دعا کرو کہ یہ پانچ نمازیں پابندی سے پڑھے۔ میرا بچہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے دورہ حدیث کا طالب علم ہے حضرت دعا کرو کہ یہ پانچ نمازیں پابندی سے پڑھے۔ پابندی سے نماز نہیں پڑھتا یہ حالت ہوگی۔ ایک نوجوان سلسلے میں داخل ہوئے کہتے ہیں کہ تین سال متواتر ہو رہے ہیں پاکستان کے وفاق میں فرسٹ آیا۔ تین سال پورے پاکستان کے وفاق کے امتحان میں فرسٹ آیا۔ کبیرہ سے نہ بچ سکا۔ بیعت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہے اس کو مذاق سمجھتے ہیں؟ یہ نسبت کا ایک نور ہوتا ہے جو سینوں میں منتقل ہوتا ہے۔ بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں انسان کی حفاظت میں آجاتا ہے۔ گناہوں کی دلدل سے انسان نکل جاتا ہے۔

س دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے
میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھا دیتا ہے

یہ کسی کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اہل نظر کی نظر ہوتی ہے۔ اہل ہم کی ہمتیں ہوتی ہیں۔ وہ تہجد کے اندر گڑگڑا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کیلئے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہاں کہاں کس کس کی ان دعاؤں کے صدقے گناہوں سے حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں۔ ہم گناہوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم ترکیبیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، موقع تلاش کریں گے کوئی موقع ملے تو ہم گناہ کریں۔ ہماری کوشش کے باوجود ہمیں گناہوں کے موقع نہیں ملتے، ہمارا کمال نہیں ہوتا۔ وہ پیچھے معلوم نہیں کن اللہ والوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو گناہ سے بچنا انتہائی ضروری۔ اس کے بغیر محبت الہی کی چاشنی نصیب نہیں ہوتی۔

گناہ کا وبال لازمی:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ .

جس نے بھی برائی کی اس کو اس کی سزا ملے گی۔

یہاں اصول سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس نے بھی گناہ کیا۔ اس گناہ کا وبال اس پر آئے گا۔ اس گناہ کی سزا اس کو ملے گی تو سزا ملتی ہے۔ مثلاً طالب علم ہے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ حضرت مجھے باتیں یاد نہیں رہتیں۔ مطالعہ کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے یہی سوال کیا تھا۔ انہوں نے اس کو شعر میں لکھ دیا۔

شَكُوتٌ إِلَى وَقِيحِ سُوءٍ حِفْظِي

فَأَوْصِيَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي

فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنَ الْإِلَهِي

وَ نُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي

[میں نے امام و قیح اللہ علیہ (اپنے استاد) سے حافظہ کی کمی کی شکایت کی۔

انہوں نے وصیت کی اے بچے (طالب علم) گناہوں سے بچ جاؤ۔ اس لئے کہ

علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور کسی گناہ گار کو نہیں عطا کیا جاتا]

تو گناہوں سے بچنا، اس سے انسان کی قوت حافظہ اچھی ہوتی ہے۔ جو طلباء پوچھتے

ہیں حضرت ورد و وظیفہ بتاؤ قوت حافظہ اچھی ہونے کا، تو سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ

گناہوں سے بچ جائیے۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ (شیخ الحدیث حضرت مولانا

ذکر یا رحمۃ اللہ علیہ کے والد) فرمایا کرتے تھے اگر طالب علم کو دوستی لگانے کی مرض ہے تو

لتناذہین کیوں نہ ہو کبھی نہ کبھی اس کی کشتی بیچ دریا میں ڈوب جائے گی۔ اور طالب علم کتنا بی غبی اور کند ذہن کیوں نہ ہو۔ اگر اس کو دوستی لگانے کا مرض نہیں تو کبھی نہ کبھی اس کی کشتی کنارے ضرور لگ جائے گی۔ تو ہم علم حاصل کرنے کیلئے گھروں سے نکلے، اپنے آپ کو ہم ہر گناہ سے بچائیں۔ اس لئے کہ جیسے معتکف کو ہر وقت ثواب مل رہا ہوتا ہے طالب علم کو بھی مدرسہ میں رہتے ہوئے ہر وقت ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ کھانے پر بھی ثواب..... لیٹنے پر بھی ثواب..... پڑھنے پر بھی ثواب..... ہر عمل پر طالب علم کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ طالب علم اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ تو اس لئے طالب علم کو چاہیے کہ وہ گناہوں کے موقعوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں گناہوں سے ورنہ گناہوں کا وبال ضرور ہوگا۔ اس وبال میں سے ایک قوت حافظہ کو چھین لیا جائے گا۔ گناہوں کے بدلے کسی نہ کسی نعمت سے بندہ محروم ہوتا ہے۔ مثلاً قوت حافظہ کی نعمت سے محروم، اور زیادہ گناہ کئے تو جسمانی قوت سے محروم۔ حضرت کمزور ہوں اٹھتا ہوں آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو گیا وضو قائم نہیں رہتا۔ کتنی نعمتوں سے بندہ محروم ہوتا ہے اور اگر گناہ کا کسی اور کو پتہ چل گیا تو عزت کی بجائے التا زلت ملی۔ اور اگر کامیاب طریقے سے چھپ کر بھی گناہ کر لیا۔ تو بھی گناہوں کے اثرات سے نہیں بچ سکتا۔ گناہوں کا اثر اسے پہنچ کے رہے گا۔

گناہوں کا وبال اہل و عیال پر:

ایک جیولر تھا (سنار)۔ اس کی بیوی نہایت خوبصورت، خوب سیرت تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ کھانا کھانے گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیوی زار و قطار رورہی ہے۔ پوچھا اللہ کی بندی کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ چھوٹا بچہ جو ہم نے پالا تھا۔ یتیم تھا۔ میں نے اس کو اپنی گود میں لیا اور اس کو پالا۔ اب یہ سترہ اٹھارہ سال کی عمر کا ہو گیا۔ میں نے اسے

سبزی لینے کے لیے بھجوا تھا۔ یہ آکر سبزی دینے لگا تو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے دبا دیا۔ مجھے اس کی نیت میں جو ہے فوراً نظر آیا مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں اس کے لیے ماں کی سی حیثیت رکھتی ہوں اور اس کو میرے متعلق یہ دھیان ہے۔ اپنے صدمے پر میں بیٹھی رو رہی ہوں کہ دنیا سے وفا اٹھ گئی ہے۔ جسے بچوں کی طرح پالا تھا آج اس کی نیت میرے بارے میں ایسی خراب ہے۔ یہ بات سنی تو سنار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ کیوں رورہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ یہ اس کی کوتاہی نہیں یہ میری کوتاہی ہے..... اس کی کوتاہی نہیں میری کوتاہی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا وہ ایسے کہ آج میرے پاس عورتیں آئیں چوڑیاں خریدنے کے لیے۔ ایک عورت چوڑی پہننا چاہتی تھی مگر اس سے پہنی نہیں جا رہی تھی۔ مجھے اس نے کہا کہ پہنا دے تو میں نے اس کو چوڑیاں پہنائیں۔ مجھے اس کے ہاتھ اچھے لگے تو پہنانے کے دوران میں نے اس کو شہوت کے ساتھ دبا دیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ میری بیوی کا ہاتھ کسی اور نے شہوت کے ساتھ دبا دیا۔

اس کی تصدیق حدیث پاک سے ہوتی ہے نبی ﷺ نے فرمایا، اگر تم دوسروں کی عورتوں سے پرہیز گاری کا معاملہ کرو گے تو تمہاری اپنی عورتوں سے پرہیز گاری کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور اگر اپنی نظر ادھر ادھر کرتے پھریں گے تو کیا ہمارے بچوں پر، بہنوں پر، بیٹیوں پر کوئی نظر نہیں اٹھائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں خاوند؟ ہم جس پر چاہے نظر پینکتیں رہیں الٹی سیدھی؟ ہماری بیوی بچی رہے گی۔

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. (فاطر: ۴۳)

(اور بری تدبیر، تدبیر کرنے والے پر ہی لوٹ کر پڑتی ہے)

یہ قرآنی اصول ہے اس لئے نگاہ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ دل سے طمع نکالنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں کی طمع ہی بندہ دل سے نکال دے، اس پر محنت کرے۔ آنکھ ہی نہ اٹھائے کسی کی طرف جہاں برائی کا خطرہ ہو۔ یہ دستور ہے۔ اس لیے ہمارے

اکابرین جتنے بھی تھے سب کے سب اپنی نگاہوں کا بہت پرہیز کیا کرتے تھے۔

تو گناہوں سے بچنا، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم خود بخود بچ جائیں گے..... نہیں، ہم نہیں بچ سکتے جب تک اس کے لیے محنت نہیں کریں گے، فکر مند نہیں رہیں گے۔ زہرا اگر کوئی ایک قطرہ بھی ملا دے اور کہہ دے کہ یہ پی لو۔ تو کوئی پینے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ایک قطرہ زہر سے بچتے ہیں۔ اسی طرح مومن ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتا ہے، رسک نہیں لیتا۔ جیسے عام بندہ رسک نہیں لیتا کہ زہر نہ ہو کہیں میں نہیں کھاتا۔ ایسے ہی مومن رسک نہیں لیتا کہ میں اس طرف قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے فتنے میں ڈال دے اس لیے رب کریم کا جو ارشاد ہے وَذُرُوا ظَاهِرًا لِأَلْئِمٍ وَيَاطْنَةُ۔ چھوڑ دو وہ گناہ جو ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے۔

سچی توبہ کر لیں:

آج کی اس محفل میں ہم اپنے سب گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ سینے اور دل کے کانوں سے سنئے!! بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، عالم تھا، دعا مانگ رہا تھا تو دعا مانگتے ہوئے اس نے کہا، اے اللہ! میں نے تو آپ کی نافرمانی کی (کوئی گناہ کیا ہوگا، ملوث ہوگا کسی گناہ میں) اے اللہ میں نے تو گناہ کیا مگر آپ نے اپنی نعمتیں مجھ پر برقرار رکھیں۔ تیرا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ دعا مانگی، اے اللہ! میں نے توبہ گناہ کیے آپ نے اپنی نعمتیں برقرار رکھیں یہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ تمہاری آنکھوں پر پردے پڑے ہیں تمہیں ان گناہوں کی سزا نظر نہیں آرہی ہے جو تمہیں مل رہی ہے۔ توجہ دل میں یہ بات آئی تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ مجھے ان گناہوں کی سزا کیسے مل رہی ہے۔ فوراً دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ واضح فرما دیجیے کہ مجھے گناہوں کی سزا کیسے مل رہی ہے۔ اللہ رب

العزت نے دل میں بات ڈالی کہ تم محسوس نہیں کرتے جب سے تم نے یہ گناہ شروع کیا ہم نے تمہیں اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیا۔ مناجات کی لذت ہم نے چھین لی۔ تمہیں احساس ہی نہیں۔ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت چھین لیتے ہیں۔ تہجد کی پابندی چھین لیتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ کی پابندی چھین لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت علوم و معارف جو سمجھ میں آنے تھے ان کی توفیق بندے سے چھین لیتے ہیں اور بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سب برقرار ہیں۔ نہیں..... پتہ نہیں کس کس انداز سے نعمتیں چھن رہی ہوتی ہیں۔ ہم اندھے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا تو یاد رکھنا!! اگر ہم گناہ کریں گے تو گناہوں کے اثرات سے نہیں بچ سکیں گے..... گناہ کریں گے تو گناہوں کے اثرات سے نہیں بچ سکیں گے۔ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِبْهُ۔ کوئی اسٹی نہیں ہے کہ اس میں طالب علموں کو چھوڑ دیا جائے گا، علماء کو چھوڑ دیا جائے گا، صوفیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِبْهُ۔ جو کوئی بھی گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ دراصل ہمیں سزا نظر نہیں آرہی ہوتی کہ ہم کن کن نعمتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ سنتیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں ہم سے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ سنون دعائیں اپنی اپنی اوقات میں ہم سے چھوٹ رہی ہوتی ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ گناہوں کا گھٹا ڈنا پن جو دل میں ہوتا ہے وہ دل میں بے کم ہو جاتا ہے تو انسان گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے اس کو وہ سزا ہی نہیں سمجھتا۔ مومن گناہ کو سمجھتا ہے جیسے پہاڑ ہے آگرے گا اور فاسق سمجھتا ہے مکھی بیٹھی تھی اڑادی۔ اب اگر طالب علم کی بھی حالت یہی ہو کہ گناہ یوں نظر آئے کہ مکھی بیٹھی تھی اڑادی تو کتنی نعمت سے محروم ہو گیا۔ اس کو محرومی نہیں سمجھتے۔ برف ہو اور ٹھنڈی نہ لگے، آگ ہو اور گرم نہ لگے، گناہ ہو اور اس کے بد اثرات نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجاہد بن عوج فرماتے تھے کہ

جب کبھی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں مجھ سے کوتاہی سرزد ہوئی، میں نے اس کا اثر یا اپنی بیوی میں دیکھا، یا باندی میں دیکھا، یا سواری کے جانور میں دیکھا۔ جب میں نے اپنے رب کا حکم ماننے میں کوتاہی کی جو میرے ماتحت تھے انہوں نے میرا حکم ماننے میں کوتاہی کی۔ اب آج کہتے ہیں جی! میں تو خطیب ہوں میرا بیٹا نالائق بن گیا۔ کیسے نالائق بنا، جب اپنوں سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو کچھ اس میں اپنی بھی غلطی ہوتی ہے، سمجھے! جب اپنوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو کچھ اس میں اپنی بھی غلطی ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نسل کو علم سے محروم کر دیتے ہیں۔ کوتاہیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں۔

دنیا کے بنانے والے سے بنا کے رکھیے:

دنیا کہتی ہے رہنا دریا میں اور مگر مجھ سے بیر، ارے دریا میں رہ کر مگر مجھ سے بیر نہیں چل سکتا۔ رہنا دنیا میں اور دنیا بنانے والے سے بیر۔ پروردگار عالم کو ناراض کر لینا گناہوں کے ذریعے سے۔ بس یہ شکر سمجھیے کہ پروردگار عالم کا حکم بڑا ہے وہ مہلت بڑی دیتے ہیں۔ پروردگار عالم کا حکم بڑا ہے وہ مہلت بہت دے دیتے ہیں۔ جب ہم رنگے ہاتھوں کسی کو پکڑ لیں تو ہم اسی وقت سزا دیتے ہیں۔ پروردگار ہر بندے کو گناہ کرتے رنگے ہاتھوں دیکھتے ہیں اور پھر بھی اپنی بعض نعمتیں ان کو دیتے چلے جاتے ہیں اللہ کا حکم دیکھئے۔ میرے مولا!! آپ کتنے حلیم ہیں، آپ کتنے کریم ہیں۔ ہماری کوتاہیوں پر پردے ڈال دیتے ہیں۔ ہم چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں مولا! آپ لوگوں کی نظروں میں ہماری عزت بنا دیتے ہیں۔ کوئی عالم کہتا ہے۔ کوئی صوفی کہتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اے دوست!! جس نے تیری تعریف کی اس نے درحقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔ اس پروردگار نے چھپایا ہوا ہے۔ لوگ حسن ظن رکھتے ہیں تیری تعریفیں کرتے پھرتے ہیں۔ گناہ سے بچنا یہ سا لک کا اصل اصول ہے۔

آج کا موقع:

آج کی اس محفل میں زندگی کے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور آئندہ دل میں عہد کر لیجئے کہ ہم نے علم اور ارادے سے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہم نے علم اور ارادے سے اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ بس دل میں عہد کر لیجئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے مدد مانگئے اور اس پر اپنے پیر اور استاد کی دعائیں لیجئے۔ اور اس کیلئے اللہ تعالیٰ کے سامنے روز روئے پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دروازے کھول دیتے ہیں۔ گناہوں سے بچنا کیسے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو انسان گناہوں سے بچے تب اس معرفت کے راستے پر آگے بڑھ جاتا ہے ورنہ بیعت ہونے کے بعد دس سال بھی گزر سکتے ہیں بیس بھی گزر سکتے ہیں۔ جیسے چکنے گھڑے پر بارش کا پانی نہیں ٹھہرتا اسی طرح شیخ کی توجہات بندے کے دل پر نہیں ٹھہرتیں۔ چکنے گھڑے جو بن گئے تو ان کو توجہات سے فائدہ اٹھانا، ان مجالس سے فائدہ اٹھانا اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم دل میں عہد اور ارادہ کریں کہ ہم نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا۔ اور اگر بالفرض ہو جائے (فرشتہ کوئی بھی نہیں) یہ نہیں کہ عہد کرنے سے ہم فرشتے بن جائیں گے نہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما کر بچالیں گے اور اگر کوئی گناہ کا مرتکب ہو بھی بیٹھا تو پھر معافی مانگے۔ ہمارے اکابر فرشتے نہیں تھے انسان ہی تھے مگر پہلے قدم پر وہ اپنی طرف سے گناہوں سے بچتے تھے اور بالفرض کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی تھی بتقاضائے بشریت تو جب تک اللہ تعالیٰ سے رورور معافی نہیں مانگ لیتے تھے اس گناہ کو دھلوا نہیں لیتے تھے تب تک ان کو چین نہیں آتا تھا۔ پریشان رہتے تھے روتے تھے کئی دن روتے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو شرح صدر دے دیا جاتا تھا کہ گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اس لئے امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسی ایسی

پاکباز ہستیاں بھی گزری ہیں جن کے نامہ اعمال میں بیس بیس سال تک گناہ لکھنے کا موقع فرشتے کو نہیں ملا..... اس امت میں (مکتوبات میں لکھا ہے) ایسی پاکباز ہستیاں بھی گزری ہیں کہ جن کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو بیس بیس سال کسی گناہ کے لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ اکبر! جب یہ حضرات ایسا نامہ اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور ایک طرف ہم ہوں گے کہ گناہ سے کوئی بھی دن خالی نہیں۔

اپنا محاسبہ خود کیجیے:

تو میرے دوستو! روز اٹھیے اور ہر دن میں اپنے دل میں ہی ایک عہد اور ارادہ کیجئے مالک! میں آج کا دن گناہوں کے بغیر گزارنا چاہتا ہوں میری مدد فرمائیے اور اس دن گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجئے پھر رات کو اپنا محاسبہ کر لیجئے اگلے دن پھر صبح یہ نیت کر لیجئے۔ جب آپ زندگی کی ترتیب ایسی بنالیں گے تو چند دنوں کے بعد اللہ رب العزت گناہوں سے حفاظت فرمادیں گے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچالیں گے۔

ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ تھے عجیب بات کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جو بندہ علم اور ارادہ سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پروردگار اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور عجیب بات کہی مجھے تو بہت اچھی لگی بہت اچھی لگی۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شیخ تھے۔ وہ فرماتے تھے جس نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا۔ اب حدیث کے طالب علموں کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اے اللہ! ہمیں ہر دن ایسا گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جیسے محبوب ﷺ کی صحبت میں پورا دن گزار رہے ہوں۔ دن کو حدیث کی کتابیں کھول کر بیٹھتے ہیں اور پھر شام کو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اے اللہ!! اس نحوست سے ہم کب بچیں گے۔ اے مالک!! آپ کی ناراضگی سے ہم کب بچیں گے۔ یہ جو آپ نے

امت سے توفیق چھین لی ہے اے اللہ!! آپ کس وجہ سے ناراض ہیں۔ میرے مولا!! ہم توبہ کرتے ہیں اب اللہ!! گناہ کی ذلت سے بچالینا۔ اے اللہ ہم گناہ کی ذلت میں نہیں جانا چاہتے اس دلدل سے نکال لینا ہم گناہ کرنا بھی چاہیں اے اللہ! تو ہمیں کرنے سے روک دینا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے عاجزی کریں گے تو رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور پھر دیکھنا کہ علم کی معرفت کی وہ شمع سینے میں جلے گی کہ اللہ رب العزت اس نور سے پوری دنیا کو منور فرمائیں گے۔

ماسٹر پیس:

جی ہاں! جیسے بنتا ہے نہ کوئی ماسٹر پیس (Master piece)، تو وہ کاریگر اس کو ذرا سب لوگوں کو دکھانے کے لیے سیکل رکھ لیتا ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ”کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اپنے من کے اندر اللہ کی محبت کو اتار چکے ہوتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر چکے ہوتے ہیں، وہ ایسے سیکل بن جاتے ہیں اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو دکھانے کے لیے ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ سیکل بنا ہوا ہے میرے بندو!! دیکھو ان کو..... کیسے انہوں نے دنیا سے ماسویٰ کو نکالا دل سے؟ کیسے یہ میرے بنے؟ اللہ تعالیٰ اپنے دنیا کے ملکوں کو ان کیلئے دنیا کے محلے بنا دیتا ہے۔“ آج اس وقت میں گناہوں سے سو فیصد بچنے والے بہت کم ہیں اللہ کرے کہ ہم کوشش کرنے والے بن جائیں۔

حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا

بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا

اللہ کے وہ بندے جو سو فیصد گناہوں سے بچ جائیں اپنے رب کے تابع ہو

اللہ تعالیٰ کی قدرت دانی

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَّا بَعْدُ!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

إِنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلٌ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَ سَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

عمل شروع کرنے کی قدرت دانی

اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہیں، بندہ اپنی صفات میں ناقص ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات کی انتہا نہیں۔ اگر ہم ساری زندگی بھی اس کی صفات پر غور کرتے رہیں تو ہم اللہ رب العزت کی صفات کی معرفت نہیں پاسکتے۔ اس لیے اس کے جو صفات نام ہیں حدیث پاک میں معروف تو ننانوے ہیں مگر حقیقت میں وہ بے حد و حساب ہیں۔ نبی ﷺ نے دعا مانگی اے اللہ! میں تیرے ہر اس نام کی برکت سے دعا مانگتا ہوں جس نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو علم دیا یا فرشتوں کو علم دیا یا جس کا علم تو نے کسی کو نہیں دیا تجھے خود معلوم ہے میں ان ناموں کی برکت سے بھی دعا مانگتا ہوں۔

۔ جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا

ابتداء کرتا ہوں اس کے نام سے

اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بڑے قدرت دان ہیں

تو فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت بڑے قدرت دان ہیں وہ قدر فرماتے ہیں، اپنے بندوں

میں۔ اذْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَأَنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ بِيْرَاهُو جَائِزٌ تُوَ آجِ يَهْدِي هَسْتِيَا دُنْيَا مِيں تَهْوِي هِيں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے حضرات کی صحبتیں نصیب فرمادے اور ناہوں کی نحوست سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑادے اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہنائی ہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس فرمادے اور ان نعمتوں کی قدرت دانی کی توفیق عیب فرمادے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

نعمتیں دیتے ہیں اور اس کے بندے جو اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر دانی فرماتے ہیں، وہ بڑے مہربان اور قدر دان ہیں۔ اس لیے دین اسلام میں ایک اصول بنا دیا گیا:

إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

کہ بیشک تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو میں کسی کے کئے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ تو جو بندہ بھی اللہ کی رضا کیلئے کوئی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں رمائیں گے۔ اب ذرا اس کی مثال سمجھ لیجئے کہ جب دفتر میں کسی کلرک نے اپنے انفر کے سامنے کوئی خط پیش کرنا ہوتا ہے تو اس کو کئی دفعہ ٹاپ کرنا پڑتا ہے۔ ایک غلطی نکل آئی پھر آپ کرو، پھر دوسری نکل آئی پھر کرو، پھر سپیلنگ کی غلطی نکل آئی، پھر پیرا گراف خوبصورت نہیں لگ رہا تو کئی کئی کاغذ ضائع ہونے کے بعد پھر ایک کاغذ فائل بنتا ہے۔

اس پر صاحب لوگ سائن کرتے ہیں۔ اور اگر غلطیوں والا لیٹر ہی دے دیا جائے کہ جی ہاں نے ٹاپ کر دیا۔ اب آپ غلطیاں بھی ٹھیک کر دیں سائن کر دیں تو کوئی بھی حاکم نہیں نے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بھی ایسی ہی تھی کہ بندہ عمل کرتا اور اس میں کوئی غلطی ہوتی تو اللہ تعالیٰ رد فرما دیتے کہ جاؤ میرے بندے مجھے بغیر غلطی کے عمل چاہیے پھر ہمارا کیا بنتا۔

لہذا یہ حکم دے دیا جاتا کہ مجھے غفلت والی نماز قبول نہیں بغیر غفلت کے نماز پڑھو تو ہم سارا ارادہ نماز ہی پڑھتے رہتے۔ پتہ نہیں کوئی ایسی نماز پڑھ بھی سکتے یا نہ پڑھ سکتے۔ ریت نے حکم بنا دیا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اب اس سے اگر کوئی بھول ہو گئی غفلت ہو گئی جب تک کے درجے کی، سنت نہیں واجب تک کے درجے کی تو اب اس کو دوبارہ نماز ہننے کی ضرورت نہیں۔ اسی نماز کے آخر پر وہ سجدہ سہواً کر لے تو اس کی وہی نماز قبول جائے گی۔ اب جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کو نماز میں رکعتیں یا نہیں رہیں تو سان سا حکم تھانے سرے سے پڑھو مگر اس میں بندے کی محنت ضائع ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ

قدر دان ہیں وہ بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ وہ مہربان ہیں مشقت بھی نہیں اس پر دینا چاہتے تو اصول بنا دیا کہ بھی واجب تک کے درجے کی تمہاری کوئی غلطی ہو نہ اخیر پر سجدہ سہواً کر لو گے تو ہم اسی نماز کو قبول فرمائیں گے۔ ذرا غور کیجئے یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی مہربانی ہے کتنی بڑی رحمت ہے اور کتنی قدر دانی ہے کہ بندے کے عمل کا ضائع نہیں ہونے دیا۔ ایک صوفی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، رکعتیں بھول گئے اب اگر کہیں کہ مجھے تو ٹھیک نماز پڑھنی تھی میں اس کو توڑ کے نئی نماز پڑھتا ہوں تو شریعت کہتی ہے: نہیں، اس کو نماز توڑنا گناہ ہے۔ حالانکہ بھول چکا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ گمان غالب کر کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھ لیں۔ اب گمان غالب جتنا بھی ہے اس کے بعد بقیہ رکعتیں پڑھ کر اگر تم سجدہ سہواً کر لو گے اللہ رب العزت اسی نماز کو قبول فرمائیں گے۔ تو کوشش یہ کہ گئی کہ کئے ہوئے عمل کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جو قدر دان ہوتا ہے؟ مہربان ہوتا ہے یہ کام وہ کرتا ہے۔

چنانچہ ایک آدمی جنگل میں ہے اور پتہ ہی نہیں کہ قبلہ کدھر ہے۔ شریعت نے کہا انکل لگاؤ، قیافہ لگاؤ، تخری کرو کہ کدھر ہے قبلہ جب تمہارا دل سمجھ لے کہ اس طرف ہے قبلہ تو نماز شروع کرو۔ اب ایک بندے نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ لیکن دو رکعت پڑھنے کے بعد اس کو نماز کے دوران بعض قرآن سے پکا پتہ چل گیا کہ میں تو الٹی سمت پہ نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ تو پچھلی سمت میں قبلہ تھا تو شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ نماز توڑو اور ادھر پڑھو نہیں..... فرمایا اگرچہ نماز میں ہو اور اب غالب گمان یقین کے درجے تک آ گیا کہ پچھلی سمت ہے تو تم اپنا رخ پیچھے کو بدل کے دو رکعت ادھر پڑھ لو، ہم ادھر کی بھی قبول کر لیں گے، ادھر کی بھی قبول کر لیں گے۔ اے مالک! نماز تو اس نے قبلہ سے دوسری طرف پڑھ تھی مگر اصول بنا دیا کہ ہم کسی کے کئے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ کتنا بڑا اصول ہے ذرا اس کی گہرائی پر اور اس کی افادیت پر غور کیجئے ہم تو نہیں سمجھ پارہے ہیں لیکن ۱۱

ب العزت نے کتنا بڑا انعامی فیصلہ فرمادیا، مرد ہو یا عورت میں تم میں سے کسی کے کئے وئے عمل ضائع نہیں کروں گا۔ بہت بڑا انعامی فیصلہ، اللہ رب العزت کا ہم عاجز سکیں کیلئے آسانیاں ہو گئیں۔ یہاں تک کہ شریعت نے بتا دیا کہ اگر کچھ لوگوں نے مل کے نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ تو اس میں سے کئی غفلت کے ساتھ پڑھ رہے تھے کئی ماز میں تھے مگر گلی کوچے کی سیریں کر رہے تھے۔ شریعت نے ایک فیصلہ دے دیا کہ اگر ری جماعت میں سے کسی ایک کی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی کت سے پوری جماعت کی نماز قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کا کرم دیکھئے اس کو دو اور احسان دیکھئے بندوں پر۔ تو شریعت ہمیشہ اس بات کا لحاظ کرتی ہے کہ بندے کا کیا راعل ضائع نہ ہو جو بھی عمل کر رہا ہے وہی عمل قبول ہو جائے، اسی کو ٹھیک کیا جائے۔ تو یہ بت بڑا انعامی معاملہ ہے، پروردگار عالم کی مہربانی ہے۔ آپ کو کوئی بھی استاد اگر کام دیتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے اس میں غلطی نہیں چاہیے۔ اگر استاد کے سامنے کچھ لکھ کے پیش کرو ر غلطی ہو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جاؤ اور اس کو نئے سرے سے لکھ کے لاؤ۔ رب کریم نے کتنی ربانی فرمادی کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو بھی وہ پروردگار قبول فرمالتے ہیں۔ معلوم ا کہ اللہ رب العزت بڑے مہربان بڑے قدرت دان ہیں۔

ل خراج کرنے کی قدرت دانی:

اچھا غور کیجئے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو ایک لاکھ روپیہ دیں۔ خود اپنی طرف سے دیا یٹے کو ہدیہ تھہ دیں اور پھر آپ کو اس میں سے ایک روپیہ کی ضرورت پڑ جائے کہ کسی کو دینا ہو تو باپ توقع کرتا ہے کہ میں نے ابھی اس کو ایک لاکھ روپیہ دیا ہے۔ اگر یہ ایک روپیہ دے بھی دے تو کون سی بڑی بات کہی اس نے۔ تو ہم اس کو بڑی بات نہیں سمجھتے لیکن اللہ ب العزت کا احسان دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے نعمتیں اپنے بندوں کو دیں دایا، رزق دیا، سب کچھ دیا، اب اس دیکھئے ہوئے رزق میں سے اگر اس کا کوئی بندہ

اللہ کے راستے میں کوئی ایک روپیہ خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے جو میرے راستے میں خرچ کر دیا یہ تم نے مجھے قرض حسد دے دیا۔ اے مالک! دیا ہی تو آپ نے تھا اگر اس میں سے ہم نے کچھ خرچ بھی کر دیا تو کون سی بڑی بات کی ہم نے مگر نہیں وہ قدرت دان ہیں چنانچہ فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا حَالًا تَكُونُ خِزَانُونَ لِلْمَالِكِ هُنَّ ان ان کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں وَلِلَّهِ خِزَانُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں لیکن اگر کوئی بندہ اس مالک کے دیئے ہوئے مال میں سے کوئی ایک روپیہ بھی اس کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، پروردگار فرماتے ہیں میرے بندے تم جو یہ خرچ کر رہے ہو تم کسی فقیر کو نہیں دے رہے کسی مدرسے کے مہتمم کو نہیں دے رہے یہ تو تم مجھے قرض حسد دے رہے ہو۔ اللہ اکبر! قدرت دانی کی انتہا دیکھئے کہ پروردگار عالم نے اس کو قرض حسد فرمادیا۔

روزہ دار کی قدرت دانی:

پھر اور دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ نعمتیں دیں اب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت سے خوش ہو کر اس کی قدرت دانی فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار بندہ جب روزہ رکھتا ہے اور روزہ کی وجہ سے اس کے منہ میں سے مہک آتی ہے وہ مہک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! قدرت دانی دیکھئے کہ بندے نے لبیک کہی اللہ کے حکم پر اب اس کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ بولو تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی مگر نہیں محبت کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان کا تعلق ہے۔ بندوں کے ساتھ تو بندے کے منہ کی بدبو کی بھی قدرت دانی فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اے بندے! روزے کی وجہ سے تیرے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے مہک نکلتی ہے وہ ہمارے نزدیک پھولوں کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔

ناقص مال کی قدر دانی:

اللہ رب العزت کتنے قدر دان ہیں۔ ہم کوئی سودا لینے جاتے ہیں نا۔ تو سودے کے اندر اگر کوئی نقص دیکھتے ہیں تو ہم نہیں قبول کرتے۔ کوئی بھی بندہ عیب دار چیز کو نہیں پسند کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت دیکھئے بندے کو انہوں نے پیدا کیا بندے کے اندر خوبیاں بھی ہیں تو خامیاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے خود مد کر فرمادیا۔

خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا..... ضَعِيفًا..... حَلُوعًا..... جَذُوعًا.....
مَلُوعًا.

یہ سارے انسان کے قصیدے سنائے گئے جھگڑا لوجھی ہے..... جلد باز بھی ہے..... یہ بھی ہے..... وہ بھی ہے اب یہ ساری خامیاں بندے کے اندر ہیں تو جب مال میں خامیاں ہوں تو لینے والا لیتا تو نہیں نا۔ مگر اللہ رب العزت کی مہربانی دیکھئے وہ بندوں پر اتنے مہربان ہیں۔ ایک طرفہ سودا عیب والا کر دیا۔ قرآن مجید میں فرمادیا:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ.

اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا۔ مالانکہ سودا عیب والا تھا، بندے کے اندر عیب تھے اور عیب والا سودا کوئی نہیں خریدتا مگر رور دگار اپنے ازلی علم کے باوجود اس سودے کو قبول کر لیتے ہیں اسی کو کسی شاعر نے یوں لہا کہ

اے اللہ تو بعلم ازل مرا دیدی

دیدی آنکہ بعیب بخزیدی

”اے اللہ تو ازلی علم کے ساتھ مجھے جانتا ہے۔ اور میرے عیبوں کو جاننے کے

بعد، اے اللہ پھر تو مجھے خریدتا ہے کہ میں نے مومنوں سے ان کی جان کو خرید لیا۔“

تو بعلم و من بعیب ہا

رد مکن آں چہ خو پسندی

اے اللہ تو ازلی علم والا ہے اور میں انہی عیبوں والا ہوں، اللہ اس کو رد نہ کیجئے گا جس کو آپ نے ایک مرتبہ پسند فرمایا۔

تو وہ کتنا مہربان ہے بندوں کے عیبوں کے باوجود اس کو قبول فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے اس لئے کہ وہ قدر دان ہے وہ قدر دانی کرتا ہے ہر بندے کے عمل کی قدر دانی فرماتا ہے۔

ایمان کی قدر دانی:

اللہ رب العزت کی قدر دانی سن لیجئے۔ بی بی آسیہ زوجہ فرعون، جب اس کے جسم سے کھال اتاری گئی تو فرعون سخت غصے میں تھا۔ میری بیوی ہو کر یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اس کی انا کا مسئلہ تھا۔ اس نے کہا میں تجھے سب کے سامنے ذلیل کروں گا۔ اپنی ناک بچانے کیلئے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اپنی Face saving کیلئے۔ میری بیوی یہ مجھے نہیں مانتی ان کی بن گئی، ان پر ایمان لے آئی۔ کہتا ہے میں سب کے سامنے رسوا کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے جو چاہتے ہو کرو۔ اس نے ان کو دربار میں بلایا اور بھرے دربار میں غصے کی وجہ سے کہنے لگا۔ کہ ایک تو میں نے تمہیں اس محل سے ہمیشہ کیلئے دھکا دیدیا۔ میں نے پسند کیا تھا کہ تم بڑی خوبصورت ہو، پورے ملک کی عورتوں میں سے جن کے میں نے تمہیں اپنی بیوی بنایا اور تم جانتی ہو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور تمہاری آنکھ کے اشارے پر سینکڑوں خادم ہیں یا خادما ت ہیں جو حکم بجالانے کیلئے تیار۔ تم ان سب نعمتوں کو چھوڑ کے آرہی ہو اب تم اس گھر میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکو گی۔ میں نے تمہیں اس گھر سے نکال دیا۔ اور پھر لوگوں کو کہا کہ اس کو بے لباس کرو۔ اور اس طرح لٹاؤ کہ اس کا چہرہ اس محل کی طرف رہے، اس کو پتہ رہے کہ میں کہاں سے نکال دی گئی۔ اب جب ان کے

ساتھ معاملہ ہوا اور ان کے جسم سے کھال اتاری جانے لگی تو انہوں نے دعا مانگی اللہ رب العزت سے کہ اے پروردگار مجھے ایک تو نجات عطا کیجئے اس فرعون اور اس کے عمل سے، اور اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اب اس کے بدلے میں رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - اے اللہ! مجھے اپنے قرب میں جنت کا مکان عطا فرما دیجئے۔ تو جنت کا مکان مانگا بی بی آسیہ نے۔ چونکہ عورت جب بے گھر ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، مجھے کوئی سایہ ملے۔ مجھے کوئی گھر مل جائے۔ تو انہوں نے دعا مانگی۔ یہ عورت کی فطرت ہے۔ تو دعا مانگی رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - اے اللہ! اس کے بدلے میں مجھے جنت میں اپنے قرب کا مکان عطا فرما دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دانی دیکھئے کہ رب کریم نے ان کی اس دعا کو قبول کر کے جنت میں گھر تو دیا ہی سہی ایک اور عنایت بھی کر دی۔ وہ کیا تھا؟ روح المعانی میں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام موجود تھے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہونے لگی تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جب آپ جنت میں جاؤ گی تو وہاں میری بیویوں کو میرے سلام کہہ دینا۔ وہ بڑی حیران ہوئی اے اللہ کے محبوب ﷺ میں دنیا میں آپ کی بیوی ہوں اور اب میری وفات ہو رہی ہے، تو جنت میں آپ کی بیوی کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ نے مریم کو اور آسیہ (زوجہ فرعون) کو جنت میں میری بیویاں بنا دیا ہے۔ تو قدرت دانی دیکھئے کہ بی بی آسیہ نے اللہ سے فقط گھر مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت دانی کرتے ہوئے گھر والا بھی عطا فرما دیا۔ کیسی قدرت دانی ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے۔ انہوں نے تو یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ مجھے ایسا گھر والا عطا کر دیجئے۔ انہوں نے فقط گھر مانگا تھا۔ مگر میرے مالک! آپ کتنے قدر دان ہیں آپ نے گھر بھی دیا اور ایسا گھر والا دیا کہ اس سے بڑے انعام کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اتنے قدر دان ہیں پروردگار عالم۔

ہم نے دیکھا جب ہم چھوٹے بچے تھے۔ محلے کے دوکاندار کے پاس جاتے..... وہ ہمارے بھائی، والد کے بڑے دوست تھے۔ وہ کبھی ہمیں دوکان پر دیکھتے تا تو بڑے خوش ہوتے کہ یہ فلاں گھر کا بچہ آ گیا ہے۔ اب جب ہم سودا لیتے تو وہ سودا بھی ہمیں تول کے دیتے اور اپنی طرف سے کچھ تھوڑا سا ”جھونگا“ اس کو کہتے ہیں وہ بھی اوپر دے دیتے، لو بچہ یہ بھی کھاؤ۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت دیکھئے وہ بھی قدر دان ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ بندے نے جو مانگا وہ تو دیتے ہی ہیں۔ اپنی رحمت سے اپنی شان کے بقدر اور بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑے قدر دان ہیں بڑے مہربان ہیں۔

نبی علیہ السلام کی خدمت کی قدرت دانی:

ایک اور مثال سن لیجئے۔ حضرت زیدؓ نبی ﷺ کے منہ بولے بیٹے کہلائے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات صحابہؓ میں ان کا واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں بچپن میں گھر سے بے گھر ہو گئے تھے اور کسی طرح وہاں پہنچ گئے تھے۔ غلام بن گئے بالآخر چلتے چلتے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے والد ان کے لئے بڑے اداس رہتے تھے۔ والدہ اداس ہوتی، چچا اداس ہوتے۔ ان کے لئے انہوں نے بڑے اشعار کہے اور ان کو ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ کسی نے بتا دیا کہ ہم نے تو ان کو فلاں جگہ دیکھا۔ چنانچہ والد اور چچا ان کو لینے کے لئے وہاں حاضر ہوئے۔ پہلے انہوں نے بچے کو سمجھایا کہ بچے! تیری ماں اداس رہتی ہے۔ میں اداس ہوں رشتے دار سارے اداس ہیں اور دیکھو تیرے پیچھے ہم نے کتنے سفر کئے، کتنی مشقتیں اٹھائیں اب قسمت سے مل گئے ہو اب ہمارے ساتھ چلو۔ مگر بغیر اجازت کے تو لے جا نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے چچا اور والد نے یہ بات کہی اے بنو ہاشم کی اولاد! آپ بڑے کریم لوگ ہیں بڑے سخی لوگ ہیں ہمارا یہ بچہ اس طرح آپ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اب ہم آئے ہیں کہ اس بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ نبی ﷺ نے بڑا ہی پیارا جواب فرمایا

آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر یہ بچہ جانا چاہتا ہے تو بیشک آپ کے ساتھ چلا جائے اور اگر یہاں رہنا چاہتا ہے تو اس کو زبردستی میں نہیں بھیجوں گا۔ اختیار اس بچے کو دیدیا کہ وہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، Choice اس کے پاس ہے۔ جب زیدؓ اس کے پاس Choice آگیا کہ وہ چاہے تو والدین کے ساتھ چلا جائے اور چاہے تو نبی ﷺ کی خدمت میں رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ زیدؓ بچے تھے مگر اسی وقت اٹھے اور اٹھ کر نبی ﷺ کی گود مبارک میں آکر بیٹھ گئے۔ اے اللہ کے نبی ﷺ! میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ اب زیدؓ نے ایک عمل کیا کہ والدین کو چھوڑ کر نبی ﷺ کی گود کو پسند کیا۔ اللہ رب العزت کی قدر دانی دیکھئے یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کو پوری زندگی زید بن محمد ﷺ کے نام سے دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ ان کے والد کی جگہ نبی ﷺ کا نام لیا جاتا تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا قرآن پاک میں نام آیا،

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا.

نبی ﷺ نے اپنی ایک کزن کے ساتھ ان کی شادی فرمادی۔ تو اللہ رب العزت کی قدر دانی دیکھئے کہ جو اپنے والد کی بجائے نبی ﷺ کی خدمت میں رہنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے والد کے بجائے اپنے محبوب ﷺ کے نام سے اس بچے کو دنیا میں شہرت عطا فرمادیتے ہیں۔ زید بن محمد ﷺ کہا جانا کوئی چھوٹا اعزاز ہے ان کے لیے؟ اس سے بڑا اعزاز تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدر دانی دیکھئے۔

سلمان فارسیؓ بچپن میں ایک عیسائی راہب کے بتانے پر علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ لمبی باتیں ہیں حدیث پاک کی۔ چنانچہ وہ جو تھے چلتے چلاتے بالآخر مدینہ طیبہ ایک یہودی کے غلام بنے۔ پھر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا اصحاب صفہ میں رہو۔ ان کے مانیٹر بن گئے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار سب کچھ قربان کیا۔ رشتے دار چھوڑے اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی

قدر دانی دیکھئے کہ نبی ﷺ نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا تو پیار سے فرمایا اَلْسَلْمَانُ مِنَّا اَهْلُ الْبَيْتِ۔ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اے اللہ! آپ کتنے قدر دان ہیں کہ جو اپنے گھر بار کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ! آپ اس کو نبی ﷺ کے اہل بیت میں شامل فرمادیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کا نبی ﷺ کے اہل بیت میں شمار ہوا۔ کہ نبی ﷺ نے خود فرمادیا کہ اَلْسَلْمَانُ مِنَّا اَهْلُ الْبَيْتِ۔ یہ اللہ رب العزت کی قدر دانی ہے۔ وہ بڑے مہربان ہیں۔ بندہ پر قدر دان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ قدر دانی کی جائے۔

توبہ کی قدر دانی:

ذرا غور کیجئے دنیا میں اگر کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا سرزد نہ ہو لیکن اس پر غلط مقدمہ بن جائے۔ عدالت تحقیقات کرتی ہے۔ تحقیقات کے بعد پتہ چلے کہ یہ مقدمہ جھوٹا تھا۔ تو عدالت مقدمہ تو خارج کر دیتی ہے مگر مقدمے کا ریکارڈ رکھتی ہے۔ اسے اگر عدالت کو کوئی کہے کہ جی ریکارڈ ختم کر دو۔ عدالت کہے گی ہرگز نہیں، مقدمہ حصہ ثابت ہو گیا تم بے گناہ ہو ہم نے مقدمہ خارج کر دیا۔ لیکن ہم اپنے ریکارڈ میں رکھیں گے۔ کہ مقدمہ تھا!! تو دنیا کی عدالت کا یہ معاملہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کا معاملہ: مجھے کہ بندہ واقعی گناہ گار تھا Criminal تھا، ثابت ہو گیا کہ اس نے کرائم کیا تھا لیکن اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ کے سامنے آکر رحم کی اپیل کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کے لیے کلمات کہہ دیتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر کے فقط گناہ ہی معاف نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے اس کا ریکارڈ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اتنی قدر دانی اس کی معافی مانگنے کی کہ ریکارڈ بھی نہیں رکھتے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے، اَلنَّاسِیَ اللّٰهُ الْحَطْبَ۔ جو لکھنے والے فرشتے تھے اللہ تعالیٰ ان لکھنے والے فرشتوں کی یادداشت سے گناہ مٹا دیتے ہیں تاکہ یہ قیامت کے دن گواہی بھی نہ دے سکیں۔ اللہ اکبر!!

اے مالک!! آپ کتنے قدر دان ہیں آپ کتنے مہربان ہیں اپنے بندوں پر۔ اللہ

رب العزت بڑے قدر دان ہیں بڑے مہربان ہیں۔

ہم ناقدرے:

اس کے بالمقابل ہم بندے انتہائی بے قدرے ہیں۔ انسان انتہائی ناقدر ہے۔ اپنے محسن حقیقی کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں۔ سر سے لیکر پاؤں تک انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے مگر ہم اللہ رب العزت کی قدر نہیں کرتے، جیسے ہمیں کرنی چاہئے تھی۔ اللہ رب العزت اتنے حوصلے والے ہیں، اتنے علم والے ہیں مگر اس کے باوجود فرما پڑا،

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ،

انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہئے تھی۔
انسان ناقدر ہے ناشکرا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

بیشک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ،

اور یہ اس کے اوپر خود گواہ ہے۔

اس کا دل کہتا ہے کہ واقعی میں ناشکری کرتا پھرتا ہوں۔ اور رحمان بڑا ہی قدر دان ہے۔ ہماری ناشکری کا حال دیکھئے ہم میں تھوڑے ہو گئے جو شکر ادا کرنے والے ہو گئے۔
قرآن مجید نے فیصلہ دے دیا،

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ

تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرنے والے ہیں

جیسے کرنی چاہئے قدر ہم اس پروردگار کی ویسی قدر نہیں کرتے۔ اب ہم اگر غور کریں

کہ ہم کتنی ناقدری کرتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آجائے گی۔ سچی بات تو یہ کہ آج کا انسان اکثر بے قدری کرتا ہے۔ اولاد ماں باپ کی بے قدری کر رہی ہے، شاگرد پیر و استاد کی بے قدری کر رہے ہیں، بیوی اپنے خاوند کی بے قدری کر رہی ہے۔ طبیعتیں ایسی بن گئی ہیں قدر دانی نہیں کرتے۔ بڑا بھائی ساری زندگی قربانیاں دیتا رہے گا کسی چھوٹی سی بات پہ بڑا بھائی خفا ہوا۔ بڑے بھائی سے بولنا چھوڑ دیگا۔ وہ جو بھائی کا ایک رشتہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آباد رکھنے کا، جوڑنے کا حکم دیا، وہ صلہ رحمی، ہم سب سے پہلے اس پر قبضہ پھیرتے ہیں۔

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

اور توڑتے ہیں جس تعلق کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا

جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان رشتہ داریوں کو ہم آرام سے توڑ دیتے ہیں۔ بات ہی نہیں کرتے، اوجی بھائی بھائی ہیں مگر آپس میں بولتے نہیں۔ بھائی بہن ہیں مگر آپس میں بولتے نہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال بنا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اتنی قریبی رشتہ داریوں کا بھی ہم کوئی لحاظ نہیں کرتے، کوئی اس کی قدر دانی نہیں کرتے۔ جس استاد سے پڑھا ہوتا ہے اس استاد کی بے قدری۔ ذرا سی بات ہو..... سنی سنائی، استاد کے ساتھ بدگمانی شروع کر دیتے ہیں۔ اب بھئی بدگمانی کس بات کی، دلیل کوئی بھی نہیں بس ایسے ہی سنی سنائی بات پہ بدگمانی۔ جیسے ایک صاحب حرم میں ملے کہنے لگے کہ جی مجھے آپ سے محبت تو بہت ہے لیکن تھوڑی سی بدگمانی ہے میرے ذہن میں۔ ہم نے پوچھا بھئی اللہ خیر کرے، اللہ میری اصلاح فرما دے، آپ نشاندہی کر دیں تو میں آپ کو اپنا محسن سمجھوں گا۔ کہنے لگا جی بدگمانی یہ ہے کہ آپ جب بیان کرتے ہیں تو لوگ اس وقت فوراً گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے سوچ لیتے ہیں، بیعت ہونے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں اور آپ اسی محفل میں پھر ان کو بیعت کر لیتے ہیں۔ بدگمانی یہ آئی کہ آپ ان کو سوچنے کا موقع دیا کریں اور

نہ دنوں کے بعد بیعت کیا کریں، اب ذرا سوچیں! بھئی دل موم ہوئے، اللہ کی رحمت ی، بندے توبہ کے لیے تیار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں شیطان کو موقع ملنا چاہئے ان کو غلانے کا۔ لہذا شیطان کو ایک دو دن موقع دیں اور بعد میں اگر کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا ہے تب ان کو بیعت کیا کریں۔ نہ سرنہ پیر۔ اتنی سی بات پر کہ آپ جلدی بیعت یوں کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی اور بات ہوگی اللہ سمجھ عطا مادیے۔ او میاں یہ دلوں کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اترنے کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ میں نے کہا آپ ذرا کسی دے کے سامنے کوئی بات کریں اور اس بندے کو توبہ کے لیے آمادہ کریں۔ کہنے لگا میں تو ماری عمر لگا رہوں گا تو کوئی بھی میری بات نہیں مانے گا۔ میں نے کہا یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی، کہنے والا بھی اللہ کی طرف توجہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے دربار سے مانگ رہا ہوتا ہے سننے والے بھی اللہ کے دربار سے مانگتے ہیں اور جب درد دل کے ماتھ کوئی بات کہی جاتی ہے ایک وقت آتا ہے رحمت الہی کو جو شر آتا ہے اللہ دلوں کو موم کر کے توبہ کے لیے تیار فرما دیتے ہیں۔

تو آج توبہ قدری کی انتہا ہے۔ کوئی قدر دانی نہیں کرتا۔ میاں بیوی آپس میں بس ٹرائی کرتے رہیں گے جھگڑے کرتے رہیں گے۔ بیوی میاں کے شکوے ہر وقت اور خاوند بیوی کے شکوے، ایک دوسرے کی ناقدری۔ حالانکہ جب ان میں سے کوئی فوت ہو جائے گا نا..... بیوی فوت ہوگی اب خاوند کہے گا بڑی اچھی تھی میرے بچوں کو سنبھالا ہوا تھا اور مجھے گھر کی فکر نہیں ہوتی تھی اور اب میرا سکون لٹ گیا۔ اب قدر آئی، اب اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اور اگر وہی خاوند کہ جس کی صبح و شام بیوی بدتعریفیں کرتی تھی وہ فوت ہو گیا اب بیوی روئے گی نہیں!! بڑا اچھا تھا میرے بچوں کا باپ تھا، مجھے کسی غیر کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلا نا پڑتا تھا۔ میں محفوظ تھی میری عزت کی حفاظت تھی اور آخر گھر ہی

آتا تھا۔ میرے کام کر دیتا تھا اب اس کی اچھائیاں یاد آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ایک عیب ہے، ہم نعمتوں کی موجودگی میں نعمتوں کی قدر دانی نہیں کرتے، جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تب ہمیں ان کی قدر آتی ہے۔ تو میرے دوستو! نعمتوں کی قدر دانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کیا کریں۔ نعمتوں کی قدر دانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کریں۔ وہ قدر دانی کیا ہوئی؟

چنانچہ انگریزوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے مردے کے لیے پھول لاتے ہیں اور اس کی قبر پر نمونوں ٹنوں کے حساب سے پھول ڈال دیتے ہیں تو ایک انگریز نے اس پر ایک نظم لکھی۔ اس وقت پوری نظم تو نہیں سناسکتے لیکن ایک فقرہ اس کا بڑا عجیب ہے اس نے لکھا،

Why do we wait till a person die?

اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی مرتا ہے تو ہم پھول لے کے جاتے ہیں۔ ہمیں کیوں انتظار کرنا پڑتا ہے کسی کے مرنے کا۔ ہمیں چاہئے تھا زندہ ہوتا ہم محبت کے پھول لے کر جاتے اس کو بھی خوشی نصیب ہوتی ہمیں بھی خوشی نصیب ہوتی۔ تو واقعی مرنے کے بعد پھول لائے تو کیا فائدہ؟ پھول ہی لانے تھے تو زندگی میں لاتے۔ یعنی قدر دانی مرنے کے بعد کرنے کا کیا فائدہ؟ چاہئے تو تھا کہ زندگی میں قدر دانی کرتے۔ ہم اولاد کی قدر دانی کریں، بیوی کی قدر دانی کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کریں، پیر و استاد کی قدر دانی کریں، نبی ﷺ کی قدر دانی کریں اور اپنے رب رحمان کی قدر دانی کریں۔ ناقدرے نہ بنیں، اس لیے کہ جو نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو پروردگار کو جلال آتا ہے۔

تکبر کے بول کا وبال:

عزیز طلباء! جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے، سمجھے!؟ پروردگار دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ ایک واقعہ پہلے بھی شاید میں نے عرض ک

ہوگا۔ ایک صاحب تھے بہت بڑے زمیندار، بہت بڑے زمیندار، اتنے بڑے لینڈ لارڈ تھے کہ ان کی زمین میں ریلوے کے تین اسٹیشن لگتے تھے۔ پہلا اسٹیشن بھی ان کی زمین میں، دوسرا بھی ان کی زمین میں اور تیسرا بھی ان کی زمین میں۔ اتنے بڑے لینڈ لارڈ تھے۔ ایک مرتبہ شہر میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے بات کر رہے تھے تو بات کے دوران ایک نے کہہ دیا کہ کاروبار اچھا نہیں پریشان ہوں تو ان کو اپنے پیسے پر بڑا مان تھا کروڑوں کا مالک بڑا مان تھا دل میں بڑا ناز تھا، تکبر تھا، اس کی بات سن کے کہنے لگے تمہارے پلے ہی کیا ہے۔ ہر وقت روتے پھرتے ہو۔ تم پریشان ہوتے ہو کہ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ اور مجھے دیکھو میں پریشان ہوتا ہوں کہ پیسہ لگاؤں گا کہاں سے؟ انداز سنا! تم پریشان ہوتے ہو پیسہ آئے گا کہاں سے، اور دیکھو میں پریشان ہوتا ہوں پیسہ لگاؤں گا کہاں سے۔ تکبر کی بات کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آگئی۔ نتیجہ کیا نکلا، چھ مہینے کے اندر ایک بیماری میں مبتلا ہوئے اور باوجود مال پیسے کے اس دنیا سے روانہ رخصت ہو گئے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اٹھارہ سال کے قریب اس کی عمر تھی، ساری دولت اسی کے پاس آگئی۔ کروڑوں کا بینک اکاؤنٹ اور اربوں کی جائیداد اس کے پاس آگئی۔ اب اس بندے کے پاس جب مال بھی تھا، جوانی بھی تھی، تو پھر اس کے گندے برے دوست بن گئے، جنہوں نے اس کو شراب اور شباب والے کاموں میں لگا دیا اور اٹھارہ سال کی عمر میں شباب والے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بس دنیا میں سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے ہر دن میں نئے مہمان کو بلانا شروع کر دیا۔ گندے لوگوں سے رابطے ہو گئے لاکھوں لٹانے شروع کر دیئے۔ فلاں خوبصورت مہمان چاہئے، اتنے لاکھ۔ فلاں چاہیے اتنے لاکھ۔ یہ اس کی حالت بن گئی۔ چنانچہ چند سالوں میں اس کا بینک اکاؤنٹ سارا ختم ہو گیا تو کسی نے اس کو باہر ملک کا راستہ دکھا دیا، ملکوں کا راستہ۔ فلاں ملک میں کلب ہوتے ہیں، اب وہاں جانا شروع ہو گیا، اب جائیداد بکنی شروع ہو گئی۔ حتیٰ کہ کوئی

پانچ دس سال کے اندر اندر سارا بینک اکاؤنٹ ختم، ساری جائیداد ختم، حتیٰ کہ خود بھی بیمار ہو گیا۔ چونکہ آٹھ دس سال جو بندہ اتنا زیادہ برے کام کریگا تو صحت بھی تو نہیں رہے گی۔ خود بیماری میں مبتلا ہو گیا، کمزور ہو گیا، حتیٰ کہ وہ دن بھی آیا کہ اس نے اپنی رہائش کا مکان بھی بیچ دیا، اب وہ بھی لگ گیا۔ جب رہائش کا مکان بھی بک گیا۔ در بدر پھرتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جہاں اس لے باپ نے کھڑے ہو کر تکبر کا بول بولا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں پریشان ہوتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں سے، میری تو چالیس نسلوں کو بھی کمانے کی ضرورت نہیں۔ اسی چوک پر بیٹا کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ ہم اگر نعمتوں کی ناقدری کریں گے تو پروردگار ہم سے اپنی نعمتیں واپس لے لیں گے۔

تو ہم نعمتوں کی قدر دانی کرنا سیکھیں۔ ہماری ناقدری کی انتہا دیکھیے، رب کریم نے فرمادیا، مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ انہوں نے قدر نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی اور ایک جگہ فرمادیا، يَحْسُرُونَ عَلَى الْعِبَادِ، حسرت ہے بندوں پر، مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اللہ اکبر! پہلے دور میں انبیاء کی ناقدری کی جاتی تھی۔ آج کے دور میں نبی ﷺ کی سنتوں کی ناقدری کی جاتی ہے دونوں ایک جیسے ہیں۔ ناقدرے ہیں ہم، قدر دانی نہیں کرتے۔

اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ دینے کی قدر دانی:

اللہ رب العزت قدر دان ہیں اتنے قدر دان ہیں کہ ایک صحابی تھے عبد اللہ رضی اللہ عنہ، اٹھتے جوان تھے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، اسلام قبول کر لیا۔ اپنی طرف سے تو چھپایا مگر بچا کو بے چل گیا، اس نے کہا عبد اللہ! لگتا ہے تم تو مسلمان ہو چکے ہو۔ کہنے لگا ہاں! اس نے لہایا۔ گھر میں رہو یا اس گھر سے چلے جاؤ۔ کہنے لگا ایمان تو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ہنا پھر گھر چھوڑ دو۔ گھر چھوڑ کر جانے لگے تو چچا کو غصہ آیا اس نے اتنا مارا جتنا جی چاہا اور اس

بے بعد کہا یہ کپڑے یہ بھی میں نے سلوا کر دیئے تھے یہ اتا ر دے۔ چنانچہ ابتدائی جوانی کی تھی مگر اس نے بالکل بے لباس کر کے ان کو گھر سے دھکا دے دیا۔ جب بے لباس کر دیا ہے تو بندے کا دل تو چاہتا ہے کہ زمین کھلے میں اندر چلا جاؤں۔ ماں نے کسی حیلے سے بی ایک چادر پھینک دی کہ میرا بیٹا ستر چھپالے۔ انہوں نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک لٹھا لیا ایک لپیٹ لیا۔ یہ وہ نوجوان تھا جو انتہائی خوبصورت تھا، یہ وہ نوجوان تھا جو قیمتی پڑے پہنتا تھا اور لوگ اس کے حسن و جمال کی دوسروں کو مثالیں دیتے تھے آج دو ادروں میں لپٹا ہوا یہ گھر سے جا رہا ہے۔ سوچا کہاں جاؤں؟ دل نے کہا کہ جن کی خاطر لھر چھوڑا اب انہی کے در کو جا کے پکڑ لیتا ہوں۔ چنانچہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر آئے۔ نبی ﷺ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ عبد اللہ ﷺ اس حالت میں آئے، چادر میں پیٹے ہوئے ہیں ایک اوپر ڈالی ہوئی ہے، نبی ﷺ نے پہچان لیا

دو دنوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے
وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے

آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، بال بکھرے ہیں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی ﷺ! پچانے گھر سے نکال دیا۔ اب میرے لیے تو آپ ہی کا در ہے، میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ اللہ کے محبوب ﷺ نے فرمایا اصحاب صفہ کے ساتھ تم رہنا شروع کرو۔ چونکہ قربانی بڑی تھی اس لئے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی سمائی اتنا بندہ آیا۔ یہ مسجد نبوی کے دروازے پر کبھی کبھی زور سے اللہ اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتے۔ عمر ﷺ نے دیکھا ان کی طبیعت میں انتظام کی صفت بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے ڈانٹ پلا دی کہ اپنے جذبات پہ قابو کیوں نہیں پاتے۔ نبی ﷺ کو پتہ چلا تو فرمایا عمر ﷺ عبد اللہ کو نہ ڈانٹا وہ جو کرتا ہے اللہ کی محبت میں کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! جہاد کے لیے نبی ﷺ تشریف لے گئے، عبد اللہ ﷺ بھی ساتھ چلے گئے۔ راستے میں ایک جگہ بیمار ہو

گئے نبی ﷺ کو پتہ چلا کہ عبد اللہ بیمار ہیں، نبی ﷺ ابو بکر ﷺ و عمر ﷺ کے ہمراہ عیادت کے لیے تشریف لائے تو یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی ﷺ نے عبد اللہ ﷺ کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا، سبحان اللہ! جن کو گھر سے نکال دیا گیا اب آخری وقت میں اللہ رب العزت اپنے اس پیارے بندے کو محبوب ﷺ کی گود میں موت دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ وہ صحابی ہیں جن کو اس حالت میں موت آئی کہ محبوب کے چہرے پر ان کی نگاہیں لگی ہوئی تھیں

سُئِلَ جَاءَ دَمِ تِيرَةٍ قَدَمُونَ كَيْفَ نَجَّى
يَهِي هِيَ تَمَنَّا يَهِي آرْزُو هِيَ

محبوب ﷺ کی گود میں سر ہے نبی ﷺ ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس حال میں ان کی روح اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے۔ جب ان کی وفات ہو گئی نبی ﷺ نے فرمایا کہ عبد اللہ کو نہلا دیا جائے۔ جب ان کو نہلا یا گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی ﷺ اپنی چادر جو اوڑھا کرتے تھے وہ چادر بھیجی فرمایا کہ عبد اللہ کو اس چادر میں کفن دینا۔ سبحان اللہ، مالک! آپ کی قدر دانی کیسی کہ جس جسم کو آپ کے لیے بے لباس کیا جا رہا ہے آج اس جسم کو آپ اپنے محبوب ﷺ کی چادر سے چھپا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، محبوب ﷺ کی چادر سے اس جسم کو لپیٹا گیا، پھر جب دفن کرنے کا وقت آیا، سینکڑوں صحابہ موجود تھے مگر شریعت کا حکم ہے کہ جو میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو افضل ہے کہ وہ قبر میں اترے۔ اب ایسے موقع پر، سبحان اللہ! نبی ﷺ نے فرمایا عبد اللہ کو قبر میں اتارنے کے لیے میں اس کی قبر میں نیچے جاؤں گا۔ نبی قبر میں اترتے ہیں، اب وہ عبد اللہ کو ہاتھوں میں لے کے اور ان کو زمین پر لٹا دیتے ہیں اور لٹا کر ایک بات فرماتے ہیں، اس بات کو عمر ﷺ نے سنا ٹپ اٹھے۔ ساری زندگی یاد رکھی۔ لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ نبی ﷺ نے ایک بات کہی سن کے میرا دل چاہا کاش آج عمر ﷺ کی لاش ہوتی

س کو اللہ کے محبوب یہاں لٹا رہے ہوتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر اللہ کے محبوب ﷺ نے کیا کہا کہ آپ بھی امیر المؤمنین تمنا کرتے ہیں، کہ آپ کے بارے میں یہ کلمات کہتے۔ فرمایا کہ جب نبی ﷺ نے عبد اللہ کو زمین پہ لٹا دیا تو دعا کی ”اللہ میں عبد اللہ سے منی ہوں مالک تو بھی عبد اللہ سے راضی ہو جا“ سبحان اللہ!! اللہ کی قدرت دانی دیکھیے۔ وہ لک کتنے قدر دان ہیں، اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہیں۔

اللہ کے احسان کی قدرت دانی کیجئے:

لہذا کو مالک اتنا مہربان ہے ہمیں چاہئے کہ ہم اس کے احسان کی قدر دانی کرتے رہے، ہم بھی شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنالیں۔ وہ پروردگار بندے کو اپنے سے خالی رد نہیں کرتا۔ وہ اپنے در سے جو ہے پیچھے نہیں دھکیل دیتا، وہ بڑا مہربان ہے۔

س لیے قرآن پاک میں بڑے عجیب انداز سے فرمایا،

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کیوں دھوکے میں برتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لوگوں سے دل لگاتا پھر رہا ہے۔ فانی حسن کے بچھے بھاگا پھر رہا ہے۔ ارے چند نکوں کی متاع کے پیچھے بھاگنے والے تیرا کریم پروردگار نیری طرف متوجہ ہے اور چاہتا ہے کہ تو قریب ہو جائے۔ مگر وہ اتنا قدر دان ہے، میرے بندے تو اگر ایک بالشت آئے گا تیرا پروردگار دو بالشت تیری طرف چلے گا، اگر تو ایک ہاتھ آئے گا اس کی رحمت دو ہاتھ آئے گی۔ لَيْسَ الْإِنْسَانُ بِشَيْءٍ يَمُنُّهُ هَرُؤُلًا۔ میرے بندے اگر تو میرے در کی طرف چل کر آئے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کر جائے گی۔

کریم آقا کے در پہ آجائیے:

تیرا کریم پروردگار تو متوجہ ہے کہ تو کب تو بہ کرتا ہے کب اپنے رب سے صلح کرتا ہے

کب گناہوں کو چھوڑتا ہے، کب شیطان کے در کو چھوڑ کر اپنے رب رحمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو کہتی۔ جو ماں سے بولتا نہیں، او میرے بیٹے! ماں سے ناراض نہیں ہوتے، امی سے ناراض نہیں ہوتے، تیری ماں تجھ پر کتنی شفیق ہے۔ لگتا ہے اسی انداز میں فرماتے ہیں۔ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ لہذا اگر کسی بندے کی نوے سال کی عمر ہو جاتی ہے، اب اس کی کمر جھک گیا، اب اس کے اندر ہڈیوں کا ڈھا نچرہ گیا، پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، ار لوگ اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ کھانتا رہتا ہے، لوگ اس کو اپنی جگہ سے اذیت دیتے ہیں، گھر میں کوئی قدر دانی کرنے والا نہیں، کوئی پاس بٹھانے والا نہیں۔ اب اس کوئی ویلیو نہیں رہتی اس وقت اگر وہ محسوس کرتا ہے، میں نے اب تک گناہ کئے، مالک ناراض کئے رکھا میں اب اپنے مالک کو راضی کر لیتا ہوں اس سو سال کی عمر میں اگر وہ لاٹھ کے سہارے کپکپاتا ہو اللہ کے در پر حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے مالک! میں بھولا رہا، اللہ بڑی دور سے آیا ہوں بڑی دیر سے آیا ہوں میں نے کوئی نماز نہیں پڑھیں، میں نے زندگی گناہوں میں گزار دی، اللہ جوانی لٹا بیٹھا، مال لٹا بیٹھا، جس و جمال زائل ہو گیا، اللہ! اب تو کوئی پیری بات سنتا بھی نہیں، دنیا میں میرا کوئی اپنا نہیں، اللہ! اس حال میں تیرے سامنے آیا ہوں رب کریم اس سے پوچھتے نہیں میرے بند۔ اب کیا لینے آئے ہو، تمہارے پاس کیا بچا ہے، پروردگار نہیں پوچھتے۔ فقط اس کے آنے کی قدرت دانی کرتے ہیں۔ میرے بندے تو چل کے آگیا ہم تیرے چل کے آنے کو قبو کر کے فقط تیرے گناہوں کو ہی معاف نہیں کرتے بلکہ ہم اتنے کریم ہیں تیرے کیے ہو۔ گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل فرمادیتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت اتنا قدر دان۔ اتنا مہربان ہے۔ اس مہربان آقا کو مان لیجئے اور اب تک جتنی بھی خطائیں کی ہیں ان

سنانی مانگ لیجیے۔ اس لئے علماء نے کتابوں میں مثال لکھی کہ ایک بت پرست تھا۔
بیشان حال ہو کر ساری رات اپنے بت سے دعائیں مانگتا رہا یا صنم! یا صنم! پکارتا رہا
صنم بت کو کہتے ہیں) مگر کوئی بات نہ بنی۔ حتیٰ کہ اونگھ آنے لگی۔ اونگھ میں اس کی زبان
سے نکل گیا یا صمد! یا صمد! صمد اللہ رب العزت کا نام ہے جیسے ہی اس نے کہا یا صمد! اللہ
تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ پروردگار عالم نے فرمایا لَبَّيْكَ يَا عَبْدِي، میرے بندے کیا
چاہتا ہے۔ جب پروردگار نے فرمایا، فرشتے حیران ہیں پروردگار عالم! بت پرست تھا
ساری رات بت کے نام کی تسبیح چپتا رہا، اس نے غفلت میں یا صمد کہہ دیا اللہ! آپ متوجہ ہو
گئے ہیں۔ پروردگار نے فرمایا، بت پرست تھا ساری رات بت کی پرستش کرتا رہا اس
نے جواب نہ دیا، اونگھ میں اس نے مجھے پکارا اگر میں بھی جواب نہ دیتا پھر مجھ میں اور اس
بت میں کبار رق رہ جاتا۔ جو پروردگار اتنا کریم ہے اس کریم آقا کے در پہ آجائیے اس کا
پیغام است۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

انسان! تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ رب
العزت کیسے اس دھوکے سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے
اللہ رب العزت کے شکر گزار اور فرمانبردار بندوں میں شامل ہو جائیں۔

واخر دعوتنا ان الحمد لله رب العلمين

قربانیاں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَا بَعْدًا
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا
تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ
أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى
الْأَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نَزُلَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (فصلت)
سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَ سَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
دار العمل:

دنیا دار العمل ہے۔ آخرت دارالجزا ہے۔ انسان اس دنیا میں اپنے رب کی پہچان
کے لیے پیدا ہوا۔ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے پیدا ہوا۔ مشقت کے لیے پیدا
ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے بنایا، محنت کے لیے بنایا، تو دنیا میں انسان
کھیتی کرے گا اور آخرت میں اس کا پھل اٹھائے گا۔ جب انسان کھیتی کر رہا ہوتا ہے تو اس
کو محنت کرنی پڑتی ہے جو کھیتی کے وقت میں سوتا رہے۔ تو پھل کھانے کے وقت میں
حسرت اور افسوس کرتا ہے، اسی طرح جو انسان دنیا میں محنت کرے گا آخرت میں خوش

گا، اب جو دنیا میں چین کی بنی بجائے گا اور غفلت کی نیند سوتا رہے گا، آخرت میں مرت کے ہاتھ ملتا رہے گا۔

زندگی کی اہمیت:

زندگی کی اہمیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے ہر دن کتنا قیمتی ہے، وقت لی رو بہ رہی ہے، وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ جو دن آج ہماری زندگی میں غروب ہوگا وہ موت تک دوبارہ کبھی طلوع نہیں ہوگا۔ تو وقت کو قیمتی بنانے کی اور اللہ ب العزت کے رضا والے کاموں میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص علماء لمباء جن کے کندھوں پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جنہوں نے پوری قوم کا وزن اپنے کندھوں پر اٹھانا ہوتا ہے، ان کے لیے وقت کی اہمیت کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ آج کے دور میں فتنے فسادات نے عام ہو گئے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کرنا ایک مسئلہ بن گیا ہے۔

قرب قیامت کی نشانی:

قرب قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تو دیکھے گا ایک آدمی صبح کے وقت ایمان والا ہوگا اور جب شام سونے کے لیے بستر پر جائے گا تو ایمان سے خالی ہوگا۔ اور یہ فتنے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، طبیعتیں آزاد ہو رہی ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے من مرضی کا موقع ملے۔ اسی لیے آئمہ کی تقلید بوجھ نظر آتی ہیں، نفس آزادی چاہتا ہے۔ دین میں سہولت کے نام پر آج ہر طالب علم اجتہاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے وقت میں علمائے حق کا وقت کی اہمیت پہچاننا انتہائی اہم کام ہے۔ یہ دنیا محنت کا میدان ہے، کام کی جگہ ہے۔ آرام کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔

کام، کام، کام:

اسی لئے جتنے بھی اہل حق دنیا میں گزرے ان کی زندگیوں کو دیکھیں کام..... کام

..... کام..... بس تھوڑا آرام۔ اور وہ آرام بھی اس نیت سے کرتے تھے کہ تازہ دم ہو کر دوبارہ کام کر سکیں۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ میں کبھی فرصت کے وقت میں دھوپ میں بیٹھ کے گنا چوسوں گا۔ یہ خواہش دل میں رہی کہ جب کبھی فرصت ہوئی تو دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسوں گا لیکن اپنی زندگی کے سولہ سال ان کو دھوپ میں بیٹھ کر گنا سوچنے کی فرصت نہ ملی۔ اتنی مصروفیت رہتی تھی، وقت فارغ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس عاجز نے جتنے اکابرین کی صحبت میں وقت گزارا، چند باتیں جو سب میں دیکھی گئیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم نے اکابر کو کبھی فارغ نہیں دیکھا۔ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ ان کو فارغ دیکھا گیا کہ اب آج کوئی کام نہیں، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگے رہتے تھے۔ بلکہ جہاں دو کام کر رہے تھے وہاں تیسرا کام اور شامل کر لیتے تھے، اگر تین کر رہے ہوتے تھے تو چوتھا شامل کر لیتے تھے۔ مشغولیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی تھی۔ لوگوں کی عمر بڑھتی ہے تو ان کے کام گھٹتے چلے جاتے ہیں، ہمارے اکابر کی عمر بڑھتی ہے تو ان کی ذمہ داریاں اور کندھوں کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ علمی کام، روحانی کام ہے ہی ایسا۔ نبی ﷺ کی مبارک زندگی، یہ سب سے زیادہ مصروف و مشغول زندگی ہے۔ اتنے تھوڑے وقت میں، اتنے تھوڑے ذرائع کے ساتھ، اتنا بڑا انقلاب دنیا میں پیدا کر دینا، اس کی تاریخ میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو وقت کی اہمیت کو پہچاننا اور دین کی خاطر ہر محنت مجاہدہ کے لیے تیار رہنا، یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اس راستے میں انسان کو قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔

ایک اصول:

اصول یہ ہے کہ ادنیٰ اعلیٰ پہ قربان کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے زمین کے اندر جتنی معدنیات ہوتی ہیں یہ فصلوں پہ قربان ہوتی ہیں۔ جتنی فصلیں زمین سے نکلتی ہیں زمین کی معدنیات ان کی غذا بنتی ہیں۔ تو معدنیات نباتات پہ قربان۔ نباتات حیوانات پہ

بان۔ چارہ کاٹ کر بکریوں کو، گائے بھینسوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اب یہ بکریاں، بھیڑریاں، یہ انسان پہ قربان کہ ان کی قربانی بھی دی جاتی ہے اور ان کا گوشت انسان متعال کرتا ہے۔ تو معدنیات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، حیوانات سان کے لیے قربان اور انسان اپنے رب رحمان کے لیے قربان!!!۔ اس لیے مومن کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ کے نام پہ زندگی کو گزار دینا ہے۔

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

میری زندگی کا مقصد تیرے دیں کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی

عشق و وفا کی داستانیں:

تو مقصد زندگی ہم سب کا ایک ہے کہ ہم دین کی خاطر پوری زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ عشق و وفا کی داستانیں حضرت آدم ﷺ سے شروع ہوئیں اور قیامت تک رہیں گی۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک قافلہ ہے جو اللہ رب العزت کی رضا والی منزل کی طرف جا رہا۔ اس میں انبیاء کرام بھی ہیں، ان کے صحابہ بھی ہیں، علمائے کرام بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں۔ ہر دور ہر زمانے کے وہ نیک متقی لوگ جو اپنی زندگیاں دین کے لیے گزار گئے وہ سب اس قافلے میں چلنے والے ہیں۔ اپنے اپنے وقت میں قربانیاں پیش کرتے رہے، رات آئی تو نیند کی قربانی، مصلے پہ کھڑے عبادت میں رات گزار دی، دن آیا تو اپنی سہولیات زندگی کی قربانی، چٹائی پہ بیٹھ کر حدیث کی خدمت کرتے ہوئے پوری زندگی گزار دی۔ معمولی کھانا کھایا اور اپنے وقت کو دین کے اوپر لگایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ بارے میں مشہور ہے کہ بیمار ہوئے تو حکیم نے کہا کہ مجھے اس بیمار کا قارورہ چیک کرنا ہے کہ بیماری کا اندازہ لگایا جاسکے۔ تو جب اس نے قارورہ چیک کیا (فضلہ پاخانہ چیک کیا) تو وہ کہنے لگا کہ اس انسان نے تو کبھی سالن کھایا ہی نہیں۔ تو شاگرد نے آکر امام

بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بیمار نے تو لگتا ہے کہ سالن ہی نہیں کھایا۔ تب فرمانے لگے کہ ہاں پچھلے بیس سال سے مجھے کبھی سالن کھانے نوبت نہیں آئی۔ تو حضرت وقت کیسے گزارتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ روزانہ سات باد کھالیتا ہوں اور ان کے اوپر پورا دن گزار لیتا ہوں۔ سات بادام کھا کر پورا دن اس گزار لیتا۔ اتنی سادہ زندگی؟

اس لیے علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے وقت۔ سلف صالحین کو بعض اوقات ایک ہفتے کے بعد بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو ہر دن میں ایک مرتبہ بیت الخلاء جانے حاجت پیش آتی تو ان کے گھر والے حکیم کے پاس بھیجتے۔ ماں اپنے بیٹے کو حکیم کے پاس بھیجتی کہ جی اس کو دوائی دیجیے میرے بیٹے کا پیٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو روزانہ ایک مرتبہ بیت الخلاء کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور آج جتنی نمازیں ہیں اس سے زیادہ مرتبہ روزانہ بیت الخلاء کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔

تو ہمارے اکابرین نے اپنی زندگی کے وقت کو اس دین کی خاطر قربان کیا۔ ہر دن ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے قربانیاں دیں۔ یہ قربانیاں سب۔ زیار، انبیاء کرام نے دیں۔ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا بلکہ ان سے پوچھا گیا،

ای الناس اشد البلاء

کہ محبوب ﷺ کون سے لوگ ہیں جن پر سب سے زیادہ دنیا میں بلائیں آتی ہیں؟ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا، الانبیاء، انبیاء پر سب سے زیادہ امتحانات آتے ہیں۔ ثم الامثال، پھر جن کی زندگی انبیاء سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے ان کو۔ جن کی ان کے ساتھ ہے ان کو۔ تو یہ راستہ ہے ہی قربانیوں کا راستہ۔

اچھا یہاں ایک نکتہ ہے چونکہ یہ ذکر و سلوک والے احباب کی محفل ہے تو ایک نکتہ

نصیب نہیں ہوگا۔ تو جو انسان مخلوق سے کئے گا تب جا کر اللہ تعالیٰ سے جڑے گا۔ تو مخلوق سے قلبی طور پر کٹنا اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا اس کو تجمل کہتے ہیں۔

اس لیے فرمایا کہ ذکر کو اس نکتے تک پہنچاؤ کہ مخلوق سے تعلق کٹ جائے، اللہ سے جڑ جائے، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا، وَتَقِيْلُ اِلَيْهِ تَتَبَيَّلًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تم تجمل اختیار کرو۔ آج ذکر اتنا نہیں کیا جاتا کہ تجمل نصیب ہو۔ اس لئے اثرات بھی نظر نہیں آتے۔ اسی لیے ہر طالب علم کے دماغ میں مخلوق بھری پڑی ہے۔ اتنی خواہشات حاوی ہو جاتی ہیں کہ بیٹھے حدیث پاک کا درس سن رہے ہیں اور ذہن کے اندر ایک شیپ گناہوں کی چل رہی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور دماغ کے اندر خلاف شرع وساوس کی شیپ چل رہی ہے۔ دل مخلوق میں پھنسا ہوا ہے۔ جب نکلے گا اس دلدل سے تب اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت کا اس کو پتہ چلے گا۔ تو یہ حاسدین مخالفین اہل حق کے کیوں زیادہ ہوتے ہیں سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ کیوں کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ سے واصل ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مخلوق کی طرف سے ایسی تکلیفیں پہنچاتا ہے تاکہ مخلوق سے سو فیصد منقطع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کا جڑنا آسان ہو جائے۔ تو اس لیے مخلوق کی طرف سے تو یہ معاملہ پیش آئے گا۔ اب اگر کوئی ہر وقت مخلوق کا ہی شکوہ کرتا پھرے کہ جی میں مدرسے کا مہتمم ہوں فلاں ہمارا حاسد ہے۔ شکوہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہونگے ہی سہی، کہ جی میں خطیب ہوں اور فلاں میرا بدخواہ ہے۔ ہونگے ہی سہی۔

فضل و کمال اور حاسدین لازم و ملزوم:

تو اہل حق کو مخلوق کے شکوہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہاں!! اگر کسی کو یہ تکالیف نہ پہنچیں تو یہ فکر کی بات ہے کہ یہ کیسا اہل حق ہے کہ جس کو اس قسم کے حاسدین اور مخالفین کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ حضرت خواجہ معین دین چشتی اجیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ ان

بھی ذکر کرتے چلیں طلباء کے لیے۔ اہل حق پر آخر پریشانیوں مصیبتیں کیوں آتی ہیں اتنی زیادہ؟..... مخلوق کیوں ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے؟..... کیوں ان کا جینا تنگ کر دیتی ہے؟..... کیوں ان سے خدا واسطے کا پیر رکھتی ہے؟۔ وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے مگر حاسدین ان کے سب سے زیادہ، دشمن سب سے زیادہ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اکابرین نے، مشائخ نے اس کی وجہ سمجھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے یہ قرب اس کو تبتل کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا۔

تجمل کسے کہتے ہیں؟

تبتل کہتے ہیں مخلوق سے کٹنا، اللہ سے جڑنا۔ جب تک مخلوق سے دل نہیں کٹے گا تب تک اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑے گا۔ مخلوق سے کٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی بچے دوست احباب سب سے ہٹ کے کسی عمار کے اندر زندگی گزار دی جائے، نہیں۔ دل کے تعلقات جو خلاف شریعت ہوتے ہیں ان کو توڑنا اور ان کو شریعت کے مطابق بنا لینا اس کو تبتل کہتے ہیں۔ جس کے ساتھ بھی تعلق ہو شریعت کے مطابق ہو، حدود و شریعت سے ہٹ کر کوئی تعلق نہ ہو۔ ہمارے دلوں کے اندر الٹی سیدھی نفسانی خواہشات، تعلقات ہوتے ہیں ان کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ تو جس بندے نے مخلوق سے نظر ہٹالی اور اپنے خالق کے اوپر جمالی اس بندے کو تبتل نصیب ہو گیا۔ مخلوق کے ساتھ معاملات شریعت کے مطابق رکھے مگر اپنی نگاہیں، اپنی امیدیں اپنے رب سے لگائے، غیر سے امید نہ لگائے۔

بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے تو میدی

مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے

تو نگاہیں اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر اسباب پر آجائیں، مخلوق پر لگ جائیں اسی کو تو منح کیا گیا۔ تو جب تک اسباب سے نگاہیں ہٹ کر مسبب الاسباب تک نہیں جائیں گی..... مخلوق سے لگا ہوا ہٹ کر، امیدیں ہٹ کر خالق کی طرف متوجہ نہیں ہوگی تب تک انسان کو تجمل

ما خدمت میں ایک خادم تھا اور وہ جس کسی سے سنتا وہی ان کی تعریفیں کرتا جس کسی سے سنتا وہی ان کی تعریفیں کرتا۔ اس کے دماغ میں ایک خیال بیٹھ گیا کہ ہم نے تو سنا کہ اہل حق کے مخالفین ہوتے ہیں یہ بڑے شیخ ہیں لیکن جدھر جاؤ سب تعریفیں کرنے والے، سب تعریفیں کرنے والے۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈال دی، القا کر دی کہ اس کے دل میں یہ وسوسہ ہے۔ تو حضرت نے ان کو اپنے ہمسائے کے گھر کوئی چیز لینے بھیج دیا، تو جب وہ چیز لینے کے لیے گیا کہ جی مجھے فلاں نے بھیجا ہے۔ تو اس نے تو پہلے اتنی بڑی بڑی دوچاران کو باتیں سنائیں کہ یہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ اس نے کہا کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ کو انہوں نے کوئی تکلیف پہنچائی؟ اس نے کہا نہیں۔ کبھی کوئی خلاف شرع معاملہ ان کا زندگی میں دیکھا؟ کہنے لگا نہیں۔ اس نے کہا آپ کو مخالفت کس وجہ سے ہے۔ کہنے لگا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ لوگ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ اب بتاؤ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے۔ تو اہل حق کے مخالفین کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کائنات میں درجے والے، اللہ تعالیٰ کے قرب والے سیدنا رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اور ان کے حاسدین بھی سب سے زیادہ، قرآن پاک کی آیت اتری، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اسی طرح جو فضل و کمال میں جتنا بلند ہوگا اس کے حاسدین اتنے زیادہ ہونگے۔

آپ خود غور کیجیے آئمہ اربعہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین سب سے زیادہ ہیں۔ آج کل کے جو بے لگام لوگ ہیں، ان کی زبان سے آپ کبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بات نہیں سنیں گے، وہ بھی امام فقہ ہیں۔ مجتہد فی الشرع ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بات نہیں سنیں گے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بات نہیں سنیں گے۔ ان کی تنقید کا نشانہ اگر کوئی ہوگا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے فضل و کمال میں جو جتنا اونچا ہوگا اس کو اتنے ہی حاسدین زیادہ پیش آئیں گے۔ تو یہ تو درمیان

میں ایک بات آگئی کہ اہل حق کے مخالفین کیوں ہوتے ہیں۔ اس لیے کی ان کی نظر مخلوق سے بالکل ہی اٹھ جائے۔ اپنی طرف سے وہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ جب کرتے ہیں اور خیر کے بدلے میں پھر مخلوق سے جب وہ برائی دیکھتے ہیں، تو اب نظر سو فیصد ہٹ جاتی ہے، کٹ جاتی ہے اور نظر آتا ہے کہ اللہ کے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جب یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، تب ان حضرات کو اللہ رب العزت کا کامل وصل نصیب ہوتا ہے۔

تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے

جتنے مخالفین زیادہ ہوتے ہیں اللہ کے ہاں پھر اتنا ہی مقام بڑھتا چلا جاتا ہے تو علماء کو ان باتوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہئے کہ ہمارے پیچھے فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے۔ واحد اللہ کے لیے کیجیے۔ نیکی کر دیا میں ڈال۔ اللہ کے لیے کر رہے ہیں مخلوق سے ہم تعریف نہیں چاہتے یہ تو جب توقعات مخلوق سے وابستہ ہوتی ہیں اور پھر آگے سے کوئی تعریف نہیں کرتا تو بندے کو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں مخالفت کرتا ہے اور جن کی نظر ہوتی ہی نہیں مخلوق پہ، ان کو شکوے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اس لیے کہ توقعات ہی نہیں مخلوق سے، تو مخلوق سے توقعات کو توڑ لیجیے۔

اہل حق اور قربانیاں:

تو اہل حق کو اس دنیا میں اللہ کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سب سے زیادہ قربانیاں انبیاء کرام نے ادا کیں۔ انہوں نے بھی اور اس کے بعد جو ان کے صحبت یافتہ تھے، صحابہ تھے انہوں نے قربانیاں دیں۔ پہلی امتوں نے بھی قربانیاں دیں اور اس امت کے صحابہ کرام نے بھی دیں۔ لیکن چونکہ اس امت کے صحابہ کرام کا درجہ پہلی امتوں کے انبیاء کے بعد باقی سب لوگوں سے زیادہ اونچا ہے۔ ان کی قربانیاں بھی سب سے اونچی۔ یہ بھی عجیب بات ہے، انبیاء کرام کے بعد جتنی بھی مخلوق ہے اس میں نبی ﷺ کے صحابہ

کرام کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ اس لیے ان کی قربانیاں بھی سب سے زیادہ۔ پہلی امت کے علماء نے قربانیاں دیں مگر وہ کم تھیں۔ اور اس امت کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قربانیاں دیں وہ بہت زیادہ تھیں اور اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے۔

صحابہ کرام کی قربانیاں:

قرآن مجید میں پہلی امتوں کی قربانیوں کا تذکرہ ہوا۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو آزمائشوں میں ڈالا گیا مَسْتَهْمُ الْبَنَاتِ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا ان کو جھنجھوڑا گیا اتنا جھنجھوڑا گیا، حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ، (البقرہ: ۲۱۳) حتی کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے پکار اٹھے اللہ کی مدد آئے گی۔ اتنا جھنجھوڑا گیا، تو زلزلو کا لفظ ان کی آزمائشوں کی شدت بتانے کے لیے آیا کہ کتنا جھنجھوڑا گیا۔ لیکن صحابہ کرام پر جو آزمائشیں آئیں وہ ایسی تھیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں ان کی آزمائشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان حضرات کو ہم نے جھنجھوڑا اور کتنا جھنجھوڑا، زُلْزَلُوا زُلْزَالًا شَدِيدًا (الاحزاب: ۱۱) اب دونوں کا تذکرہ دو کیجیے، ان کی قربانیوں کے لیے فقط ایک لفظ زلزلو کا استعمال ہوا اور صحابہ کرام کی قربانیوں کے لیے تین لفظ زُلْزَلُوا زُلْزَالًا شَدِيدًا۔ تو یہ تین لفظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کی قربانیاں پہلی امت کے علماء کی قربانیوں سے بہت زیادہ تھیں۔ درجے میں بھی پھراتے زیادہ۔ حتیٰ قربانیاں ہوگی اتنے زیادہ درجات ہونگے۔ تو اس لیے یہ اہل وفا اور اہل حق کی داستانیں یہ تو پوری تاریخ کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ نبی ﷺ نے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابولہب کے گھر جو چچا تھا نبی ﷺ کا، نبی ﷺ دین کی دعوت دینے کے لیے چار ہزار مرتبہ تشریف لے گئے چچا کے گھر۔ تو قربانیاں دیں، دین کی خاطر۔ پھر صحابہ کرام نے بھی قربانیاں دیں اور ان قربانیوں میں وہ وقت بھی آیا جب جان کے نذرانے دینے پڑے تو بخوشی انہوں نے

جان کے نذرانے پیش کیے۔ صحابہ کرام کے دلوں کی چاہتیں ہوتی تھیں کہ ہماری جان اللہ رب العزت کے لیے قبول ہو جائے۔ تمنائیں کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔

چنانچہ اس کی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے کہ احد کا میدان ابھی گرم نہیں ہوا۔ فوجیں پہنچی ہیں اگلے دن جنگ ہونی تھی۔ ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو کہتے ہیں، میں نے نبی ﷺ سے سنا کہ میدان جہاد میں مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں! میں نے بھی سنا ہے۔ کہنے لگا کیوں نہ میں دعا مانگوں آپ آمین کہیں، آپ دعا مانگیں میں آمین کہوں گا۔ اب یہ دونوں دوست ایک کنارے پر ہو گئے۔ ایک نے دعا مانگی، اے اللہ! میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جو مجھ پہ وار کرے میں اس پر وار کروں، حتیٰ کہ اس دشمن کو میں قتل کر کے ایک بڑے دشمن خدا کو مارنے کا اعزاز حاصل کر سکوں۔ دوسرے نے کہا آمین!۔ اب ان کی باری تھی وہ دعا مانگنے لگ گئے، اے اللہ! میرا مقابلہ کسی جبری دشمن سے ہو وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں اے اللہ! اتنی ہمارے درمیان آپس میں جنگ ہو کہ بالآخر وہ وار کرے اور مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے، پھر وہ میری آنکھوں کو نکال دے اور میرے کانوں کو کاٹ لے اور اے اللہ! قیامت کے دن میں اسی حال میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جاؤں اور آپ قیامت کے مجھ سے پوچھیں میرے بندے تیری آنکھوں اور تیرے کانوں کو کیا ہوا اور میں عرض کروں اے اللہ! میں یہ نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آیا، یہ تمنائیں ہوتی تھیں کہ ہماری جان اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنائے شہادت:

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مکہ سے سفر کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں رات کا وقت ہے راستے میں پڑاؤ ڈالا۔ لیٹے ہوئے تھے اچانک آنکھ کھلی تہجد کا وقت تھا۔ چاند اس وقت اپنا نور برسا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، قبولیت دعا کا وقت نظر آیا۔ جب آنکھ کھلی

چاروں طرف چاند کی چاندنی دیکھی اور ٹھنڈی ہوا دیکھی اللہ کی رحمت اترتی دیکھی تو اس وقت اٹھ کر بیٹھ گئے اور جی چاہا کہ میں اللہ سے اپنی زندگی کی حسرت بیان کر دوں۔ میں دعا مانگ لوں جو میرے دل میں ہے۔ تو اس وقت تہجد کے وقت میں اٹھ کر یہ دعا مانگی اللھم ارزقنی شهادة فی سبیلک اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ حسرت ہوا کرتی تھی۔ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ہماری جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہو جائے۔ باقی قربانیاں تو چھوٹی ہوتی ہیں سب سے بڑی تو یہی ہوتی ہے تاکہ بالآخر بندہ اللہ کے راستے میں جان ہی دے دے۔ تو وہ حضرات ہر وقت اس کے لئے بھی تیار رہتے تھے۔

علماء حق کی شان:

تو یہ زندگی ہے ہی اس کام کیلئے کہ اگر یہ جان اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائے تو مومن کو تو ابھی یہ جان دینے کیلئے تیار ہونا چاہیے۔ یہ علماء حق کی شان ہے اور ان کا شروع سے ہی یہ و طیرہ رہا ہے۔ اس لئے وقت کے بڑے بڑے ظالم حکام نے علماء حق کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ جبل استقامت بن کر رہے اور انہوں نے دین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ان کو ڈرایا گیا اگر تم دین کو نہیں چھوڑو گے تو یہ ہو جائے گا۔ تمہارے اوپر مشکل بن جائے گی، تمہیں فنا کر دیا جائے گا۔ ختم کر دیا جائیگا۔ مگر انہوں نے دین کو اپنے سینے سے لگایا اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ میں اپنی جان تو پیش کر سکتا ہوں مگر ایمان کو میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی:

اب دیکھیے دین اسلام کی ابتداء جو سال کی ہے وہ محرم سے شروع ہوتی ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتی ہے۔ جو اسلامی سال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بارہ مہینے ہیں ان عدد

الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا۔ تو بارہ مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں۔ اب ان بارہ مہینوں میں جو ابتداء ہے تا اسلامی سال کی وہ محرم ہے اور جو اختتام ہے وہ ذی الحجہ پر۔ محرم میں بھی قربانی ذی الحجہ میں بھی قربانی۔ محرم میں قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی۔ دس محرم کا دن بنتا تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا قربانی پیش کی۔ ساری دنیا مخالف ہے اکیلے ایک طرف ہیں۔ آگ کے شعلے بلند ہوتے نظر آرہے ہیں اور ان کو ایک پیٹنگ کے اندر بٹھا دیا گیا کہ آگ کے قریب جا بھی کوئی نہیں سکتا۔ اس لئے پیٹنگ میں ڈال کے ان کو پھینکیں گے۔ اب جس بندے کو نظر بھی آ رہا ہو اور پھر وہ حق کے اوپر قائم رہے یہ واقعی بڑی عظمت ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کو پیٹنگ سے جھولے سے آگے کی طرف پھینکا گیا، جب پھینکا گیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت فرشتے بھی ابراہیم علیہ السلام کی استقامت دیکھ کے حیران ہیں جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کیا اے پروردگار عالم! آپ کا عاشق صادق ہے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر حکم ہو اور اجازت ہو تو میں اس کی مدد کیلئے جاؤں؟ فرمایا جاؤ! اگر وہ قبول کرتے ہیں تو جاؤ تو جبرائیل علیہ السلام اس وقت ان کے پاس آئے کہ جب وہ ہوا میں تھے یعنی ابھی جھولے سے چلے تھے اور آگ تک ابھی نہیں پہنچے تھے درمیان میں ہیں۔ یہ آکر ان سے کہتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں اللہ کا حاجہ؟ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ میں انبیاء کرام کی مدد کیلئے آتا رہا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت کو جانتے ہیں کہ میں اس حال میں ہوں۔ کہنے لگے جانتے ہیں فرمانے لگے میرے لئے بس یہی کافی ہے کہ میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ظاہری اسباب کو بھی توڑ دیا اور جو عالم ملکوت سے مدد اترتی ہے اس سے بھی نظر ہٹائی اور اللہ پر نظر جمائی کہ میرے مالک کو پتہ ہے نہ میں کس حال میں ہوں مالک

کی رضا پر راضی ہوں۔ اگر وہ پسند کرتے ہیں میں آگ میں جاؤں تو میں جانے کیلئے تیار ہوں اب اس وقت پروردگار عالم متوجہ ہوئے اور فرمایا۔

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَّ سَلْمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ .

تو جن کی نگاہیں اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتی ہیں وہ ہر چیز کی نفی کر دیتے ہیں۔ مخلوق کی۔ اسی کو توحید خالص کہتے ہیں کہ نگاہیں ہر طرف سے ہٹ جائیں اور کامل اللہ رب العزت کی ذات پر جڑ جائیں اور ذکر و سلوک میں یہی چیز سکھانی ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ رب العزت کا ایسا تعلق مل جائے۔ اس کی امیدوں کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات بن جائے جب نگاہیں اللہ رب العزت کی ذات پہ جم جاتی ہیں پھر مخلوق کیا کر رہی ہے یا کیا کرنا چاہتی ہے؟ اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ چنانچہ اس امت کے علماء نے دیکھے اپنی جانوں کے نذرانے اللہ رب العزت کے سپرد کرنے کیلئے کیسی کیسی مثالیں قائم کر دی ہیں۔

ایک صحابیہ کا جذبہ جہاد:

ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین اسلام میں شہادت کا واقعہ فقط میدان کربلا میں پیش آیا نہیں! میدان کربلا میں پیش آیا مگر اس جیسے واقعات اگر آپ دیکھیں تو پوری اسلامی تاریخ اس پر بھری پڑی ہے۔ ایسی شہادتوں کے واقعات کہ بندہ حیران ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف فرما ہیں، حکم دیا کہ جہاد کیلئے تیاری کرو۔ مدینہ کے ایک گھر میں عورت بیٹھی رو رہی ہے کیوں؟ خاوند شہید ہو چکا ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور کوئی مرد نہیں کہ جس کو تیار کر کے ساتھ بھیج سکے۔ رو رہی ہے کہ میں آقا کے حکم کی تعمیل کر نہیں سکتی میں کس کو تیار کر کے بھیجوں۔ رو رو کے جب طبیعت زیادہ بھر گئی تو اپنے بچے کو سینے سے لگا کر مسجد نبوی میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی گود میں ڈال کر کہتی ہے، اے اللہ کے نبی ﷺ! میرے اس چھوٹے بچے کو جہاد کیلئے قبول کر لیجئے۔ نبی علیہ

السلام نے فرمایا کہ یہ چھوٹا بچہ کیسے جہاد کریگا؟ اے اللہ کے نبی ﷺ! جس مجاہد کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو میرا بچہ اس کے حوالے کر دیجئے تاکہ جب میدان جنگ میں دشمن تیروں کی بارش برسائے تو وہ مجاہد میرے بچے کو آگے کر دے۔ تیروں سے بچنے کیلئے میرے بچے کو آگے کر دے۔ ماں کا دل دیکھئے جس قوم کی عورتوں کا یہ حال ہو پھر اس قوم کے مردوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کے دل میں شجاعت کتنی ہوگی بہادری کتنی ہوگی۔

حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کا جذبہ جہاد:

عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ پیش ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی ﷺ! میرے چار بیٹے بھی میدان احد میں جا رہے ہیں مگر میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلوں پھروں مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا، آپ معذور ہیں جس کی ٹانگ ٹھیک نہ ہو تو اوزن برقرار نہیں رکھ سکتا وہ کیا لڑے گا؟ اے اللہ کے نبی ﷺ! بس اجازت عطا فرما دیجئے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ خوشی خوشی گھر آ کے اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں تیاری کرو میں بھی جہاد کیلئے جا رہا ہوں۔ وہ بیوی تھی آگے سے مسکرا کر کہہ دیا میں دیکھ رہی ہوں آپ تو بھاگ کے آرہے ہیں واپس۔ جب یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی،

اللهم لا تردنی الی اہلی (اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹانا)

اے اللہ مجھے اس سفر میں جب میں نکلوں تو واپس اہل خانہ کی طرف کبھی نہ لوٹانا چنانچہ وہ اپنے لنگڑے پن کے ساتھ گئے اور میدان جہاد میں جا کر شہید ہو گئے۔ جس قوم کے معذوروں کا یہ حال ہو پھر اس قوم کے صحت مندوں کا کیا حال ہوگا؟ دین اسلام میں قربانیوں کی تو پوری تاریخ ہے۔ تمنائیں ہوتی تھیں، چھوٹی بچیاں آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتی تھیں۔ ایک بچی رو رہی ہے، چھوٹی بچی سے پوچھا گیا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہیں یہ بچیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ ہمارے والد تو وہ تھے جن کو میدان جنگ میں شہادت ملی اور

کروں کہ یہ مجاہد کون ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ من انت۔ تو کور آگے سے ایک نسوانی آواز آئی۔ اے امیر الجیش! میں ایک خاتون ہوں میں کہ آپ کیسے اس طرح مردوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئیں؟ کہنے لگی کہ میر ہوں ضرار کی بہن اور جب بھائیوں پر مصیبت بنا کرتی ہے تو پھر بہنیں اس وقت کا ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے اجازت اس لئے نہ مانگی کہ کہیں آپ مجھے انکار نہ فرمائیں۔ میں نے آپ سے نکل آئی آپ میری اس سبقت کو معاف کر دیجئے؟ اجازت دیجئے کہ میں اپنے بھائی کی رہائی کیلئے اسی طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے یہ اس وقت کی مسلمان خواتین کے دل کی تمنا ہوا کرتی تھی سے ڈرنا جانتے ہی نہیں تھے بلکہ موت کا پیالہ پینا پسند کرتے تھے۔ حضرت خالد بن نے دوبارہ حملہ کیا اور بالآخر ایک مقام پر جا کر حضرت ضرارؓ کو انہوں نے رہا کر

حضرت ضرارؓ کا واقعہ:

ان کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک دفعہ گھوڑے پر سوار تھے اور اس کے رومیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے جب دیکھ لیا کہ اٹوٹ گئی انہوں نے گھیرا اور تنگ کر لیا۔ انہوں نے نیزے کے ساتھ لڑنا دیا۔ لیکن کئی گھنٹے جہاد کے بعد گھوڑا تھک چکا تھا یہ گھوڑے کی لگام کھینچتے کہ گا بڑھے اور گھوڑا تھکاوٹ کی وجہ سے پسینے میں شرابور تھا اور آگے بڑھ نہیں سکتا جب انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا تھک گیا تو پھر یہ جھکے اور گھوڑے کی گردن تک پہنچ کر گھوڑے سے کہا، اے گھوڑے! تو تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دے دے میں نبی ﷺ کے روضے پر جا کر تیری شکایت کروں گا۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات شام میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ الفاظ کہے گئے چھلانگ لگائی ہنہانیا اور ایسے بھاگنے لگا جیسے کوئی تازہ دم گھوڑا ہوتا ہے۔ اور اس

تمہارے والد کو تو بستر پہ موت آئی۔ تو بستر پہ جن کو موت آئے ان کی بیٹیاں رویا کرتی تھیں۔ اب سوچئے کہ ہمارے اس دین اسلام میں قربانیوں کی کتنی بڑی تاریخ ہے۔ تو یہ واقعہ کربلا والی ایک قربانی نہیں الحمد للہ! یہ بھی قربانی ہے بہت بڑی قربانی مگر اس جیسی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ جس کو دیکھئے اسی کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ اسی کے دل میں تمنا کہ میری جان اللہ کے نام پہ قبول کر لی جائے۔

حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ:

حضرت ضرارؓ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ مجاہد بن اسلام میں ان کا بڑا نام ہے، کفار ان سے ڈرتے تھے اور ان کی حالت یہ تھی کہ گھوڑے کی تنگی پیٹھ پہ بیٹھ کے جہاد کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ حالت تھی ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو قید کر لیا گیا تو حضرت خالد بن ولیدؓ نے فیصلہ کیا کہ ان کو چھڑانے کے لیے حملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حملہ کیا تو وہ دیکھتے ہیں کہ حملے کے وقت میں ایک سوار ہے، جس نے اپنے چہرے پہ نقاب کیا ہوا ہے اور ایک گھوڑے پر سوار ہے اور اس کا گھوڑا اتنا تازہ دم اور تیز رفتار ہے کہ وہ صفوں میں کبھی بھاگتا ادھر جاتا اور کبھی ادھر جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ بڑے حیران کہ یہ اتنا بیباک اور نڈر مجاہد کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تو وہ مجاہد میرے قریب قریب تھا، جب میں دشمنوں کے زرعے میں آئے لگتا تو وہ مجاہد میری مدد کرنا اور مجھے زرعے سے باہر نکالتا اور میں اسے دیکھتا کہ وہ کافروں کو مولیٰ اور گاجر کی طرح کتر رہا تھا۔ کہتے ہیں بڑی دیر تک جنگ کے بعد جب ہم باہر نکلے کہ دیکھیں پتہ چلایا نہیں؟ تو میں نے اس کے گھوڑے کو دیکھا کہ وہ خون سے تر ہوا تھا، اتنا اس نے کافروں کا قتال کیا تھا۔ جب باہر آئے تو پتہ چلا کہ حضرت ضرارؓ کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا تو بڑے حیران ہوئے کہ کریں تو کیا کریں۔ اب ایسے میں فیصلہ کرنا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے تو فرماتے ہیں کہ ایسے میں وہ مجاہد میرے قریب آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں پتہ تو

دشمنوں کے زرخے سے نکل کر باقی مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ اکبر! تو مجاہدین کی بات اور دین اسلام کے علماء کی بات کہ وہ باطل سے ڈر جائیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو جان کا نذرانہ پیش کرنے کیلئے تیار ہوتے ہیں۔

استقامت کی ضرورت:

اس کو استقامت کہتے ہیں اور یہی استقامت آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج اپنے ایمان کے بدلے میں مال پیش کیا جائے گا مگر ان کروڑوں کی کیا حیثیت ہے۔ ان کو لے کر گٹر میں ڈال دیجیے کہ کیا ہم مال کے پیچھے بکنے والے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا ڈرائے گی کہ یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا، نہیں! جب تک ہم دین اسلام پر قائم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں مومن کو اگر ڈر لگے تو اپنے گناہوں سے ڈر لگے، ڈر لگے تو کس سے لگے؟ اپنے گناہوں سے۔ کہ جو خطائیں ہم کر چکے ہیں کہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں۔ اور نہیں ڈرنا چاہیے کسی سے۔ اگر شریعت و سنت پر زندگی گذر رہی ہے تو مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔ دیکھا یہ مومن کی شان قرآن پاک میں بتائی گئی، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ مومن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اس کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اس کو ایمان کہتے ہیں اور اس کو آج مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ ایمان تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے تو جہاد کرنا شوق کی بات ہوتی تھی۔ خوشی کی بات ہوتی تھی۔

ماؤں کی تمنائیں:

چنانچہ مائیں اپنے بچوں کو کھانا کھلانے بیٹھتیں تھیں اور ان کو کہتی تھیں کہ بیٹو! نہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا کیا اور نہ تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی۔ بچے پوچھتے کہ

امی کیا مطلب؟ کہتیں جب میں کنواری تھی مجھ سے ایسی بات نہیں ہوئی کہ تمہارے ماموں کی رسوائی ہوتی اور جب شادی ہوئی تو میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ میں نے اس کی آرام گاہ پہ کسی کو آنے نہیں دیا۔ میں ایسی پاک دامن تمہاری ماں ہوں تو بیٹے کہتے امی چاہتی کیا ہو؟ بیٹے! میرے دل کی تمنا پوری کر دینا۔ امی کو کسی تمنا؟ کہ بیٹے تمنا یہ ہے کہ جب تم بڑے ہو کر جوان ہو جاؤ تو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا اور بیٹے! تم سب کے سب اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا۔ جب قیامت کے دن کہا جائے گا مجاہدین کی مائیں کہاں ہیں؟ تو بیٹو! اس وقت میں اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤ گی کہ میں بھی چار مجاہدین کی ماں ہوں۔ اور بیٹو جب تم شہید ہو گے اور مجھے اطلاع ملے گی تو میں آ کے تمہاری لاشوں کو دیکھوں گی کہ زخم تمہاری پشت پر لگے ہیں یا تمہارے سینے پر لگے ہیں۔ جب مائیں چھوٹے بچوں کو یہ تعلیم دے رہی ہیں تو پھر سوچئے کہ ان کچھ دلوں میں کتنے قربانی کے جذبے ہوتے تھے۔ یہ تاریخ ہے وفا کی۔ اہل حق نے وفا کے وہ کارنامے انجام دیے آج سنتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں۔

قربانیاں دیتے رہنا:

قدرت اتفاق دیکھئے کہ آج کا یہ اجتماع کا دن ویسے بھی دس محرم کا دن ہے تو قربانیوں کو انسان یاد کرتا ہے۔ تو ہم نے قربانیاں دیتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دے کر چلے گئے اور ہمارے گناہ بھی دھو گئے۔ نہیں! یہ قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا ہر دور ہر زمانے میں اہل حق کو باطل کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اور اسی کے لیے آج ہم نے اپنے دلوں کے اندر ایک جذبہ ایمانی پیدا کر لینا ہے۔ ایسا ٹھوس جذبہ ہو کہ مومن کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے۔ جب ہم نے جان پیش کر دینی ہے تو خواہشوں کو توڑنا یہ تو اس سے آسان کام ہوتا ہے۔ اس لیے سالکین کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو آج توڑ دیجیے اور اپنی نگاہوں کو اپنے رب کی

طرف موڑ لیجیے اپنے رب کی طرف نگاہیں کر لیجیے۔ عہد کر لیجیے کہ میں نے نفس کی خواہشات کا غلام نہیں بننا۔ میں نے اپنے رب کا بندہ بننا ہے، خواہشات کا بندہ نہیں بننا ہے۔ نفس کی خواہشات کی میں نے آج قربانی دینی ہے۔ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کا شریعت نے مجھے حکم دیا اور اسی کی خاطر مجھے جانا ہے۔

اور یہ قربانیاں آسان نہیں ہوتیں۔ ایک تو ہوتا ہے اپنی قربانی پیش کر دینا یہ پھر بھی آسان ہوتا ہے۔ لیکن اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دین کے لیے قربان کر دینا یہ اس سے بھی بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ اور یہ الحمد للہ علمائے حق کی قربانیوں کا تسلسل ہے۔ ہمارے اکابرین نے خود بھی علم حاصل کیا اور اپنی اولادوں کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے ڈالا اپنی اولادوں کو بھی اسی راستے پر ڈالا۔ ورنہ فرنگی کی خواہش یہ تھی کہ دین سے عوام کو اتنا دور کر دو کہ یہ اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں۔ مگر علمائے حق ڈٹے رہے۔ انہوں نے خود بھی غربت برداشت کی چٹائیوں پر بیٹھے اور اللہ کی طرف سے مل گیا تو کھالیا ورنہ فاقے برداشت کر لیے۔ وقت کی حکومتوں کی طرف دامن نہیں پھیلا یا، ہاتھ نہیں اٹھایا اور ان کی قربانی رنگ لائی اور بالآخر اس قوم کے اندر یہ مدارس آج بھی آباد ہیں۔ پہلے جہاں پچاس ہوتے تھے آج سو ہیں۔ جہاں سو طالب علم ہوتے تھے آج الحمد للہ دو سو موجود ہیں۔ پھر جس شہر کے اندر دس جامعات تھے آج وہاں پندرہ یا بیس نظر آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کی شان دیکھتے جامعات اور دارالعلوم بھی بڑھ رہے ہیں اور ان میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا پہلے وقت میں طلباء آتے تھے تو سیدھے حفظ کر کے پڑھنے کے لیے آتے تھے یا ابتدائی فارسی کی تعلیم کے بعد پڑھنے آتے تھے۔ الحمد للہ! یہ عاجز آج دارالعلوموں کے چکر لگاتا ہے جس دارالعلم میں جاؤ ماشاء اللہ ایف اے کر کے آرہے ہیں، بی اے کر کے آرہے ہیں، ایم اے کر کے آرہے ہیں۔ ہمارے استاد مولانا محمد اشرف دامت برکاتہم مان کوٹ (ملتان) والے وہ

فرمانے لگے کہ میں خود بھی اس بات پہ بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ جب اس عاجز نے ان کو اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے لگے اس کے بعد میں نے بڑا دیکھا ہمارے دارالعلوموں میں اب انگریزی سیکھنے پڑھنے والے لوگوں کے آنے کی آمد اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی ہے۔ ماشاء اللہ! لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آباد کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ استقامت ہے علمائے حق کی جس کی وجہ سے الحمد للہ یہ جامعات یہ دارالعلوم آج آباد ہیں۔ اور دین کا یہ فیض جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے قربانیاں دیں، تابعین نے دیں، ہر زمانے میں علمائے حق نے قربانیاں دیں۔

علمائے دیوبند کی قربانیاں:

الحمد للہ! اسی دین کی خاطر علمائے دیوبند ارجمند انہوں نے بھی دین کی خاطر قربانیاں دیں۔ یاد رکھنا! علمائے دیوبند کی تاریخ کی ابتداء دیوبند سے ہوئی اور اس کا عروج پاکستان میں ہوا، بالاکوٹ میں۔ کہاں پر ہوا؟ بالاکوٹ میں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو حضرت نے انہیں کہا، کہ آپ تو دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں جس سے ہمیں ایک والہانہ محبت کا تعلق ہے۔ کوئی دن زندگی کا ایسا نہیں کہ ہم دیوبند کو یاد نہ کرتے ہوں۔ تو آگے سے قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا حضرت جو آپ نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے، مگر میں بھی عرض کروں کہ دیوبند والوں پر کوئی دن ایسا نہیں گذرتا کہ جب وہ پاکستان کو یاد نہ کرتے ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ اس علمی تاریخ کی ابتداء تو یہاں سے تھی لیکن اس کی معراج تو پاکستان جا کر ہوئی۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ وہ بالاکوٹ میں جہاں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ کہنے لگے دیوبند میں کوئی دن خالی نہیں جاتا جس دن میں بالاکوٹ کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ قربانیاں ہیں ایک علمی تسلسل ہے، الحمد للہ ایک روحانی رشتہ ہے۔ جی ہاں

! تو قربانیاں دی گئیں دین کی خاطر۔ الحمد للہ عم الحمد للہ آج بھی علمائے دیوبند کے روحانی فرزند دین کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں۔ آرام کی قربانیاں، خواہشات کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، اپنی جان کی قربانیاں، ہر قسم کی قربانیاں آج دے رہے ہیں اور الحمد للہ دین کی حفاظت کا کام آج کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے علماء صلحاء کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمادے، اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرمادے کہ انہوں نے اس دور میں جبکہ خواہشات کو پورا کرنا بہت آسان بن گیا ہے، بلکہ بہت آسان بن گیا ہے۔ یہ بکتے نہیں، یہ جھکتے نہیں۔ انہوں نے اللہ کے اس در کو بہت مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہے۔ تو یہ قربانیوں کی تاریخ چلتی رہے گی یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ ہمارے اکابرین نے اولاد کے اوپر تنگیاں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں اور پھر بھی انہوں نے راہ حق سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیا۔

مولانا جعفر تانیسری کا واقعہ:

اس عاجز نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوگا کہ وہ اس جماعت کے ایک بہت بڑے مجاہد تھے۔ حتیٰ کہ جب شامی کے میدان میں جنگ آزادی لڑی گئی تو ایک حصے میں حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ وہ جرنیل تھے اور دوسری طرف مولانا جعفر تانیسری رحمتہ اللہ علیہ وہ جرنیل تھے۔ خیر جب جنگ ختم ہو گئی واپس آگئے ہم جدوجہد کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت میں فرنگیوں نے ان کو قید کر لیا قید کر کے امرت سر پہنچا دیا۔ فرماتے ہیں امرت سر میں انہوں نے ہمیں اتنی سزائیں دیں جتنا وہ دے سکتے تھے اور ہم نے اس کو خوشی سے برداشت کر لیا۔ اب فرنگی پریشان ہیں کہ ہم ان کو مزادے دے کر تھک گئے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، یہ مزالے کر نہیں تھکتے۔ تو پھر انہوں نے اپنے حکام (اوپروالوں) سے رابطہ کیا تو لاہور کے گورنر نے کہا کہ اگر تم سے قابو میں نہیں آتے تو ہمیں بھیج دو ہم ان کو اور زیادہ سزائیں دیتے ہیں۔ کہنے لگے پھر انہوں نے ہمیں لاہور بھیج

دیا۔ لاہور والوں نے جب دیکھا کہ ہم صرف بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں ہیں۔ انہوں نے ہمیں گز بھی لگا دیے۔ یہ گز ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں باندھ دیا جائے، نہ انسان بیٹھا ہوتا ہے نہ کھڑا ہوتا ہے درمیان کی کیفیت ہوتی ہے۔ بڑی بے آرامی کی اور تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان نہ بیٹھا ہے نہ کھڑا ہے۔ درمیان کی حالت میں ہے تو کتنی دہر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ ہم اس میں بھی اپنے رب کو یاد کرتے رہے اور اس کو برداشت کرتے رہے۔ اس نے بھی ہم کو خوب تکلیفیں دیں۔ حتیٰ کہ ایک مہینے بعد اس نے کہا کہ جی اتنی تکلیفیں دے کر بھی میں ان سے کوئی راز نہ اگلوں ساکا، اس کو اپنا ہم نوانہ بنا ساکا، اب میں کیا کروں؟ تو ملتان والے نے کہا کہ اگر آپ سے قابو میں نہیں آئے تو آپ ہمارے پاس بھیج دیجئے ہم ان کو ٹھیک کر لیں گے۔ کہنے لگے کہ اس وقت ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا اچھا میں ان کو ایسی تکلیف دوں گا کہ یا ان کو موت آجائے گی یا یہ ہماری بات پہ آمادہ ہو جائیں گے۔ لہذا اس نے ریل پر ہمیں بھیجنے کا بندوبست کر دیا۔ ہر قیدی کے لیے (یہ سارے علماء تھے) ہر قیدی کے لیے چھوٹا سا پنجرہ بنوادیا گیا جس کے اندر انہیں ڈال دیا گیا۔ مگر پنجرے کے جو سرے تھے ان کے ساتھ اندر کی طرف لوہے کی کیلیں لگوا دی گئیں، ویلڈ کر دی گئیں۔ کہنے لگے ہر عالم جو بیٹھا ہوتا اب اس کے ایک انچ ادھر اور ایک انچ ادھر چاروں طرف کیلیں تھیں اور درمیان میں اس کو بٹھا دیا گیا۔ اور یہ ڈبہ اٹھا کر ریل گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ جب یکدم گاڑی چلتی تو جھٹکا لگتا اور جھٹکے کے ساتھ وہ جتنی کیلیں تھیں ہمارے جسم کے اندر چھب جاتیں اور ہمارے جسم سے خون نکلتا اور ہم ابھی سنبھل ہی رہے ہوتے، اپنے زخموں کو پونچھ رہے ہوتے کہ گاڑی یکدم بڑیک لگا دیتی اور دوسری طرف ہماری پھر کیلیں چھب جاتیں۔ اب اس طرح ہم چاروں طرف کیلیوں میں بیٹھے اور ہمارے جسم میں مختلف جگہوں پہ کیلیں چھب رہی ہیں، خون نکل رہا ہے۔ پھر پلکھا نہیں، پسینہ آ رہا ہے گرمی کی شدت سے اور اس حالت میں ہمیں

در سے ملتان بھیجا گیا۔ ایک ایک ہفتہ ایک جگہ پہ کھڑے رہتے۔ ہمیں راستے میں کہیں آجاتی، بیٹھے بیٹھے اچانک پھر گاڑی چل پڑتی۔ کبھی سر میں کبھی جسم میں کیلیں چھتیں اور الاہور سے ملتان کا سفر تین مہینے میں طے ہوا۔ تین مہینے پنجرے میں رکھا گیا۔

تین مہینے بعد ملتان گئے، انہوں نے نکالا۔ اب انہوں نے بھی ہمیں اپنی راہ پر لانے کوشش کی لیکن یہ نہ مانے۔ اب ان کو بڑا غصہ آیا، اتنی تکلیفیں دینے کے بعد بھی یہ بات ماننے تو پھر کیا کریں گے ان کو سزائیں دے کر۔ دفع کرو ان کو ہم سیدھا سیدھا یا یہ لٹکا دیتے ہیں۔ تو اوپر والے انگریز نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے لٹکا دو۔ چنانچہ اس نے کہ تم نا فرمان ہو مانتے نہیں بس کل ہم تم کو سولی پہ لٹکا دیں گے۔ جان چھڑائیں گے ان زائیں دے دے کے ہم تنگ آگئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب علماء نے سنا کہ کل ان کو لٹکایا جائے گا تو اب ان کے چہرے کے اوپر جو ہے طمانیت آگئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی نس مقصد کے لیے ہم یہ قریبیاں دے رہے تھے وہ مقصد ہمیں نصیب ہو جائے گا۔

فرماتے ہیں اگلے دن جب فرنگی نے آکر دیکھا تو علماء کے چہرے بڑے تر و تازہ نظر آئے تو وہ کہنے لگا اولاد! تمہیں کیا ہوا آج بڑے خوش نظر آرہے ہو، تو کسی نے کہا اس کہ آج آپ پھانسی دیں گے اور ہمیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ب ہو جائے گی، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جب اس نے سنا تو وہ سوچنے لگا کہ ہم خوش تو کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ اگر مرنے سے خوش ہوتے ہیں ہم انہیں مارنا ہی نہیں ہتے۔ اس نے پھر اوپر فون کر کے رابطہ کیا اوپر والوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو سولی نہ بلکہ ان کو کالا پانی بھیج دو۔ چنانچہ ”تاریخ کالا پانی“ یہ کتاب کا نام ہے اس میں مولانا بانسیری نے اپنی زندگی کی خودنوشت لکھی ہے اور کالا پانی میں ان کے ساتھ کیا گزارا داستان لکھی ہے۔

وہ اس میں اپنا یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب فرنگی نے کہا

کہ ہم تمہیں اس وقت سولی بھی نہیں لٹکانا چاہتے تو ہم حیران رہ گئے کہ ہماری تمنا پورا ہوتے ہوتے رہ گئی تو انہوں نے اس پر ایک شعر لکھا

۔ مستحق دار کو پھر حکم نظر بندی ملا
کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی

کہ پھانسی پہ چڑھ جاتے تو رہا ہو جاتے، ہماری رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ فرماتے ہیں کہ خیر ہم نے اس کو بھی برداشت کر لیا لیکن ایک مسئلہ اس سے بھی بڑا تھا اور کیا؟ کہ جب اگلے دن ہمیں کالا پانی بھیجنے کے لیے انہوں نے جیل کی کوٹھری سے نکالا، حیران کہ اس نے ہمارے بیوی بچوں کو بلایا ہوا ہے۔ اب بیوی کھڑی ہے پردے میں، بچے ہیں، بیوی رونے لگ گئی بچہ آکر (میرا چھوٹا بچہ آٹھ نو سال کا تھا) میری را سے لپٹ گیا ابو! آپ کو زنجیروں میں کس نے باندھ رکھا ہے، کیوں باندھا ہوا۔؟ زنجیروں میں تو جانور کو باندھتے ہیں۔ اب چھوٹے بچے کو کون سمجھائے کہ اے بچے! کی خاطر زنجیروں میں انسانوں کو بھی باندھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیوی بھی رورہی۔ اس حال میں دیکھ کر۔ اب ایسے وقت میں بیوی کو انہوں نے یہ کہا کہ تم ان کی زبان اتنا کھلو اور ہم فرنگی کے دشمن نہیں دوست ہیں تو ہم ان کو ابھی آزاد کر دیں گے اور تمہارا ساتھ ان کو گھر بھیج دیں گے۔ اب بیوی بیچاری بھی رورہی ہے منت کر رہی ہے دو لفظ ہی کہنے ہیں آپ کہہ دیجیے میں فرنگی کا دشمن نہیں دوست ہوں ابھی آپ گھر چلیں گے۔ اداس ہیں گھر میں پریشانی ہے آپ کہہ دیجیے۔ فرمانے لگے اس سے بڑا امتحان اور کو نہیں تھا کہ اس وقت ہم جو الفاظ کہنا نہیں چاہتے تھے مگر بیوی کے بھی آنسو دیکھتے ہیں۔ وقت کہنے لگے سب سے زیادہ مشکل پیش آئی، اپنے جذبات کو قابو کرنے کی اور میں۔ اپنی بیوی کو تسلی دلائی، میں نے کہا اللہ کی بندی صبر کر لینا، اگر اللہ نے مجھے موت دینی۔ تو پھر قیامت کے دن نبی ﷺ کے سامنے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی اور اگر زندگی رہی

حکم خدا کونہ توڑنا

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَ سَلَّمَ عَلٰی عِبَادِهِ الْاَلَدِيْنَ اَضْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ وَ سَلَّمَ عَلٰی الْمُرْسَلِيْنَ ۝

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

بندے کو عاجزی سبھتی ہے:

اللہ رب العزت عظمتوں والے ہیں، کبریائی والے ہیں، وہ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ زمین و آسمان میں اسی پروردگار کا حکم چلتا ہے، اسی کی شاہی ہے سب شان اسی کے لیے ہے، سب بلندی اسی کے لیے ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں فرمایا،

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ بِلندى اور بڑائی میری چادر ہے

تو جب بڑائی پروردگار عالم کو سبھتی ہے تو اب بندے کو چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ عاجزی وہ نعمت ہے کہ اسے اختیار کئے بغیر کسی بھی انسان کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔ جو انسان بھی اللہ کے در تک پہنچا اس کو عاجزی کے دروازے سے گزر پڑا۔ اس دروازے میں سے گزرے بغیر کوئی بندہ بھی اللہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ۲۱
عاجزی کو پیدا کرنے کے لیے مشائخ عظام مجاہدے کرتے ہیں، پروردگار کے در پر چھ سکھاتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکام کی عظمت دل میں پیدا کرتے ہیں۔

دنیا میں واپس آؤں گا اللہ ملاقات کرادیں گے۔ کہنے لگے ہم نے اس طرح بیوی کو لے دی اور اپنے بچوں کو اس طرح سنبھالا اور بالآخر ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔
تے ہیں کہ میری زندگی کا یہ سب سے بڑا مجاہدہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور وقت جب میں کالا پانی پہنچ گیا اب اس دوران میرے بیٹی تھی وہ جوان ہو گئی تو بیوی نے بیٹی نکاح کرنا تھا۔ اب وہ پریشان تھی کہ والد گھر پہ نہیں تو میں بیٹی کا فرض کیسے ادا کروں۔ مانے خط لکھا کہ بیٹی جوان ہو چکی ہے اب آپ بتا دیجیے کہ میں اس بیٹی کا فرض کیسے ادا کروں۔ فرماتے ہیں میں نے کالا پانی سے جواب لکھا اور اپنی بیوی کو کہا کہ قریب میں کوئی پرہیزگار، متبع سنت، صاحب نسبت بزرگ موجود ہو تو ان کی خدمت میں پیغام بھیج دینے کہ بیٹی کا نکاح کرنا ہے۔ والد اس طرح کالا پانی میں ہے آپ اس کے لیے کوئی ذاکر ل نیک نو جوان تجویز فرمادیجیے۔ یقیناً کوئی نیک نو جوان وہ تجویز فرمادیگے اور جب وہ مانو جوان تجویز فرمادیں تو پھر اس بچی کا نکاح کر دیجیے۔ مگر انہیں کہہ دینا کہ نکاح کے لئے وہ اعلان کر دے کہ یہ ایک زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے کہ اس کا باپ اس نکاح میں نہیں پہنچ سکتا زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے لوگو! تم دعاؤں سے اس کو رخصت کر دینا۔

اتنی قربانیاں دیں ہمارے مشائخ نے اس دین کی خاطر۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمادے اور ہمیں دین کی خاطر اپنے تن من و دھن کی بازی لگانے کی توفیق فرمادے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے اور پورے لی ہمیں شریعت و سنت پر استقامت نصیب فرمادے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب بچا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمادے

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

مشریعت کی عظمت دل میں پیدا کیجیے:

علم خدا، حکم خدا ہے۔ آج کے زمانے کے فسادات میں سے ایک فساد یہ بھی ہے کہ الہی کی عظمت دل سے نکلتی جا رہی ہے۔ شریعت کے احکام جب کسی کے سامنے ہیں اور وہ منشاء کے خلاف ہوتے ہیں تو ان میں تاویلاتِ نفس نکالنا شروع کر دیتے رار کی راہیں اختیار کرتے ہیں۔ سوالات پوچھتے ہیں کہ شریعت میں ایسا کیوں ہے کیے! جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ کہہ دیا، قَبِلْتُ جَمِيعًا أَحْكَامِهِ، میں نے لی کی شریعت کے سب احکامات کو قبول کر لیا اب اس کے پاس سوال کا اختیار نہیں ب وہ یہ نہیں پوچھ سکتا کہ شریعت میں ایسا کیوں ہے؟ نہیں، جب سب احکام کو قبول اب فقط احکام کے اوپر عمل کرنا باقی رہ گیا۔

کی اطاعت جانوروں سے سیکھیے:

اللہ رب العزت نے جانوروں کو انسان کے تابع بنا دیا۔ دیکھیں جانور انسان کی ردا کیسے کرتے ہیں۔ اتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے ایک لات مارے تو بندے کی جان چل جائے لیکن چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں نکیل دے دو تو اونٹ اس کے پیچھے چلنا مگر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ بچہ چھوٹا سا ہے آٹھ دس سال کا بچہ ہے مگر اونٹ کو مطیع بنا دیا۔ فرمانبردار بنا دیا گیا۔ کبھی اس نے اپنے مالک سے جھگڑا نہیں کیا کہ میری کمر پڑیادہ نہ لا دو۔ اس کو ماتحت بنا دیا گیا اب وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اونٹ کی جسامت دیکھیں۔ وٹے بچے کا معاملہ دیکھیں کوئی تک بنتا ہے؟ مگر نہیں پروردگار نے اسے مطیع بنا دیا۔ تو کائے پیچھے چل رہا ہے، سینکڑوں میل چلے گا پیچھے، جہاں تک اس کا مالک اس کو لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو انسان کا ماتحت بنا دیا۔ گھوڑا انسان کی فرمانبرداری کرتا ہے گھوڑے سے اللہ تعالیٰ نے بولنے کا اختیار بھی چھین لیا۔ اگر گھوڑے کو بولنے کی

بالفرض قوت مل جاتی تو وہ بھی قدم قدم پہ کہتا کہ آپ نے مجھے کھانا نہیں دیا، دانہ نہیں، مجھے Sick lieve چاہیے (میڈیکل لیو) میری بھی آج طبیعت ٹھیک نہیں تو ہمارے لیے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ انسان کا حال دیکھو کہ سارا دن گھوڑے سے کام لیتا ہے شام کو دانہ ڈالنا بھی اسے بھول جاتا ہے۔ گھاس تھوڑا ملا تو جتنا تھا وہی ڈال دیا۔ وہ دشا کے ساتھ پیٹ بھرے یا نہ بھرے گھوڑا اس کو کھا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سردیوں کی رات ہے مالک خود تو بستر میں رضائی اوڑھ کے سو گیا، گھوڑے کو کمرے میں باندھنا بھول گیا، گھوڑا ساری رات سردی کے اندر کھڑا ہے۔ اس کے لیے پلنگ نہیں، بستر نہیں، رض نہیں، سردی میں اسے نیند بھی نہیں آتی اور وہ لیٹ کے بھی نہیں سوتا۔ کھڑے کھڑے سر ہے ساری رات اس طرح گذاری اگلے دن اس کے لیے Sick lieve نہیں آئی۔ مالک کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آج کام پہ نہیں جا سکتا۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ مالک اسے تانگے میں لگا دیتا ہے اور پھر سارا دن بھاگتا رہتا۔ حتیٰ کہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ مالک نے اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا اور کہیں آ کے کیا تو قریب گندی نالی تھی اس گھوڑے نے گندی نالی کا پانی پینا شروع کر دیا وہ مالک سے شکوہ بھی نہیں کر سکتا کہ مالک آپ کے لیے تو پیپسی اور کوک ہے اور ہمارے پانی بھی نہیں؟ ہم گندا پانی پیتے ہیں اور سارا دن بھاگتے ہیں۔ تھکا ہوا ہے گھوڑا اور ما کو اسٹیشن جانے کے لیے چند سواریاں مل گئیں۔ سواریوں نے کہا آپ کو پانچ رو زیادہ دیں گے گاڑی نکل رہی ہے ذرا جلدی دوڑاؤ، سارے دن کا تھکا ہوا گھوڑا مالک اس کو چابک مارنا شروع کر دیتا ہے، وہ مالک کو کہہ نہیں سکتا کہ سارا دن بھاگا ہوں اب پانچ روپے کی خاطر مجھ پر اتنا ظلم کر رہے ہو۔ وہ بیچارا چابک بھی کھا رہا ہے بھاگ بھی رہا ہے۔ مجبوری دیکھئے اس بھاگنے کی دوران اگر اس کو اپنی لید کر۔ ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو اس ضرورت کے لئے کھڑا ہونے کی فرصت نہیں

ماگ بھی رہا ہے اور لید بھی کر رہا ہے آپ نے کبھی دیکھا کسی کو اتنا مجبور کہ اس کی ضرورت کے لیے بھی اس کو کھڑا ہونے کی فرصت نہیں دی جا رہی ہے۔ گھوڑا تانگے کو لے کر بھاگ رہا ہے ساتھ ساتھ لید بھی پھینکتا جا رہا ہے اور اپنا سفر بھی کرتا جا رہا ہے۔ تھکا ہوا ہے مگر مانٹے کھا رہا ہے اور پھر بھاگ رہا ہے۔ اس کا حال دیکھو اگر اس کے جسم پر زخم تھا اور لک نے اس کو کچھ لگا یا نہیں تو کھیاں بیٹھ رہی ہیں اور تنگ کر رہی ہیں۔ وہ مالک کو بتا بھی میں سکتا کہ جناب اس پر کچھ لگا ہی دیتے۔ مالک اگلے دن پھر اس کے جسم پر زین ڈال دیتا ہے۔ پرانا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر اس کو بتانے کی اجازت نہیں۔ آپ سوچئے کہ لھوڑا اپنے مالک کا کس قدر ماتحت ہے۔ ہر کام میں آمین کہہ رہا ہے اس کو آگے سے لے کر پھرتا فرمانی کی اجازت ہی نہیں۔

اب دیکھئے کہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے۔ اونٹ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے۔ کسی نے اگر اپنے گھر میں کتاب لیا اپنی حفاظت کیلئے۔ کتے کو بھوک لگی ہے لیکن وہ ائے گا تو آگے جو توں میں بیٹھے گا۔ کبھی کتے کو جرأت نہیں کہ دسترخوان پہ پڑا کھانا جو دگ کھا رہے ہیں اس میں سے کوئی بوٹی اٹھا کے لے جائے کہ میں بھی بھوکا ہوں۔ قوت ہے طاقت ہے اس کے اندر۔ اگر وہ چھپٹ پڑے تو جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے روٹی بھین کے لے جائے۔ مگر ایسا نہیں کریگا۔ اس کے بیٹھنے کی جگہ قایلین نہیں ہے، اس کے بیٹھنے کی جگہ جو توں میں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ماتحت ہوں اور میری یہی جگہ ہے۔ اور وہ جگہ تو میرے مالک کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتا اپنے مالک کے جو توں میں بیٹھتا ہے اور جو توں سے آگے بڑھنے کی جرأت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماتحت بنا دیا ہے۔ ساری رات جاگ کے مالک کے گھر کا پہرہ دیتا ہے۔ ساری رات اور صبح اس کے لئے کوئی بستر نہیں ہوتا کتے کا گھر ہی نہیں ہوتا کبھی اس دیوار کے نیچے کبھی درخت کے نیچے۔ اس طرح وہ زندگی گزارتا ہے اور اپنے مالک کے گھر کا پہرہ دیتا ہے۔ جتنے بھی

ڈنڈے مارے کتے کی عادت ہے کہ تھوڑی دیر کیلئے کہیں اوجھل ہو جاتا ہے اور پھر اسی مالک کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ جوتے کھا کے بھی اپنے مالک کا گھر نہیں چھوڑتا اور ہماری یہ حالت ہے کہ نعمتیں کھا کے بھی مالک کا دریا نہیں آتا۔ حالت تو دیکھئے اللہ رب العزت نے حیوانوں کو انسان کا ماتحت بنا دیا۔ اب وہ طاقت میں ہوں یا نہ ہوں وہ سر جھکا دیتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔

نکتہ چینی کی گنجائش نہیں:

جس طرح حیوانوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا ماتحت بنا دیا۔ اسی طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کا ماتحت بنا دیا۔ لہذا جتنے بھی انسان ہیں ان کو چاہیے کہ نبی ﷺ کے علم پر لید اور آمین کہیں کوئی انکار کی گنجائش نہیں۔ نبی ﷺ کی کسی سنت پر اعتراض کو کوئی گنجائش نہیں۔ کلمہ پڑھ لیا اب ہم نے عہد کر لیا کہ اے اللہ! جس طرح جانور ہمارے ماتحت ہیں اب ہم آپ کے اور آپ کے محبوب ﷺ کے ماتحت ہیں، اب ہم آپ کے غلام ہیں، بندے ہیں آپ کے۔ اے اللہ! اگر ہم جانوروں کے مالک ہیں اور وہ ہماری اتنی فرمانبرداری کرتے ہیں تو اصل مالک تو ہمارے آپ ہیں۔ ہمیں بھی آپ کی فرمانبرداری کرنی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام میں نکتہ چینی کرنا، نبی ﷺ کی سنتوں پہ اعتراض کرنا ایمان سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا آج کے دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ جو کالجوں، یونیورسٹیوں کے لڑکے ہیں بچے ہیں آج کل ان کی عادت ہے کہ آپس میں بیٹھے کے یہ موضوع (Topic) چھیڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ شریعت میں کیوں ہے؟ اور ایمان جیسی دولت سے بسا اوقات محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی نے، مالا بدہ، میں یہ مسئلہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر دو بندوں میں گفتگو ہو رہی تھی اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یار یہ شریعت کی بات ہے اور سننے والے نے کہہ دیا رکھ پرے شریعت کو، ”فَلَقَدْ كَفَرَ“ ان

لفظوں کے کہنے سے بندہ کافر بن جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ایک بندہ شریعت کی بات کرے اور دوسرا کہے، ’رکھ پرے شریعت کو‘ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے جہاں بھی سنت کا استخفاف ہوگا انسان ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اپنی سستی غفلت کی وجہ سے سنت پر عمل نہ کر سکتا، یہ گناہ ہے مگر اس سے کافر نہیں بنتا مومن رہتا ہے۔ مگر غافل ہوتا ہے، گناگار ہوتا ہے، فاسق بن جاتا ہے لیکن اگر کوئی بندہ سنت پر اعتراض کر دے، سنت کا مذاق اڑا دے یا ایسی بات کرے جس سے کہ سنت ہلکی نظر آئے بے وزن نظر آئے، سنت کا استخفاف ہو۔ اس سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ سمجھنے والی بات ہے ذرا دل کے کانوں سے سنیے! حکم خدا، حکم خدا ہے اس کی عظمت اپنے دل میں بیٹھائیے۔ جب تک سالک کے دل میں حکم خدا کی عظمت نہیں ہوگی اس وقت تک نفس کی اس کو لگام نہیں پڑے گی شریعت کی۔ نفس اس کے اندر اپنی منشاء تلاش کرے گا۔ حتیٰ کہ عالم بھی ہے تو قرآن بھی پڑھے گا تو منشاء خداوندی تلاش کرنے کی بجائے اپنی منشاء تلاش کرے گا۔ اس لیے یہ مسئلہ بہت نازک ہے، ہم قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی منشاء تلاش کریں اور یہ تب ہوتا ہے جب نفس جھک جائے، اس کو لگام پڑ جائے، حکم خدا کی عظمت دل میں آجائے۔

مالک کی شکرگزاری ایاز سے سیکھیے :

ہمارے اکابرین نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے بڑے عجیب و غریب نتائج نکالے ہیں۔ بڑی معرفت کی باتیں نکالی ہیں انسان حیران ہوتا ہے، چنانچہ ایک بات جو اس موقع کے مناسب ہے وہ یہ کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نیک مسلمان بادشاہ گزرا ہے۔ غزنہ ایک علاقہ ہے افغانستان کا، اس کے پاس ایک غلام تھا اور اس غلام کا نام ایاز تھا۔ تھا تو دیہاتی آدمی مگر جب بادشاہ کے پاس آیا تو وہ اتنا اچھا خدمت گار تھا کہ بادشاہ کو

پسند آ گیا اور بالآخر بادشاہ کے مقربین میں شامل ہو گیا۔ اب دوسرے لوگ جب ایاز کو دیکھتے کہ اتنی عزت مل گئی ہے تو حسد پیدا ہوتا۔ حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ جہاں فضل و کمال ہوتا ہے وہاں حاسدین ضرور ہوتے ہیں اب وہ حاسدین آپس میں Planing کرتے رہتے سوچتے رہتے کہ اب ہم کیسے بادشاہ کی نظر سے اس کو گرائیں تاکہ یہ یہاں سے دفعہ دور ہو جائے موقع کی تلاش میں رہتے۔ حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی مگر حسد کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سن سنا کے اس کو بڑا بے تکبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ کیا ہوا کہ ایک دن ان لوگوں نے مل کر بادشاہ سے کہا ہم آپ کے مقرب ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ خاندانی لوگ ہیں، امراء ہیں، لیکن جو آپ کی محبت کی نظر ایاز پر ہے وہ اور کسی پر نہیں تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کبھی آپ کو اس بات کا جواب دوں گا۔ بات آئی گئی ہوگی اب کیا ہوا کہ ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگوایا، جو کھانے میں ذرا کڑوا ہوتا ہے اس کی قاشیں بنوائیں اور قاشیں بنوا کر اس نے ان سب مصاحمین میں تقسیم کروائیں اور ایک قاش ایاز کو دیدی، اب جس نے بھی کھائی، تھوڑی سی، بادشاہ سلامت بہت کڑوے ہیں، بہت کڑوا، لیکن بادشاہ نے جب ایاز کو دیکھا تو مزے سے پھل کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا یہ کڑوا نہیں ہے؟ بادشاہ سلامت! کڑوا تو بہت ہے۔ پھر تم نے تو آرام سے کھا لیا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت! مجھے خیال آیا آپ کے جن ہاتھوں سے میں زندگی میں سینکڑوں مرتبہ میٹھی چیزیں لے کے کھا چکا ہوں اگر آج کڑوی بھی مل گئی تو میں واپس کیسے کروں۔ مجھے واپس لوٹاتے ہوئے شرم آئی، حیا آئی، اس لیے میں نے کڑوی چیز بھی کھالی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جائے کہ جس پر درد گار نے ہزاروں ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں۔ اگر کبھی کوئی غم اور تکلیف کی بات بھی پیش آگئی تو ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا در نہ چھوڑتے۔ آج تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انجانیاں ہوتی اور اس کے باوجود

ہمیں شکر کرنے کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ تو یہ لکھا۔

اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو:

دوسرا واقعہ یہ لکھا۔ انہوں نے بادشاہ کو یہ شکایت بھی لگائی کہ بادشاہ سلامت! ایاز کی ایک الماری ہے لگتا ہے کہ اس میں اس نے کچھ چھپایا ہوا ہے۔ یہ روز اس الماری کو کھول کر دیکھتا ہے اور اس کو تالا لگا کے رکھتا ہے۔ کسی اور بندے کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ہمارا خیال ہے، گمان ہے کہ اس نے آپ کے خزانے کے قیمتی ہیرے موتی اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں چھپا کے تو آپ ذرا تلاشی لیجیے۔ جب بادشاہ سلامت کو یہ شکایت لگائی گئی تو بادشاہ سلامت نے اسی وقت ایاز کو بلوایا اور بلوا کے کہا: آیا زکیا تمہاری ایسی الماری ہے؟ جی ہے..... تالا لگا کے رکھتے ہو؟ جی..... کسی اور کو دیکھنے دیتے ہو؟ جی نہیں..... خود روز اسے دیکھتے ہو؟ جی ہاں۔ فرمایا چابی لاؤ۔ ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤ اور اس الماری میں جو کچھ موجود ہے سب کچھ لا کے یہاں سب کے سامنے پیش کر دو۔ وہ حاسدین بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو اب اس کی حقیقت کھل جائے گی اور اس چوری کا سامان سامنے آئے گا تو بادشاہ ابھی اس کو دھکا دے دیگا یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب وہ بندہ واپس آیا تو اس نے آ کر تین چیزیں رکھیں۔ ایک پرانا جوتا، ایک پرانا تہبند، اور ایک پرانا کرتا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اور اس میں کچھ نہیں تھا؟ اس نے کہا کہ جی نہیں۔ پوچھا ایاز!! اس میں اور کچھ نہیں تھا، جی نہیں..... یہی کچھ تھا جو تالے میں رکھا ہوا تھا..... جی ہاں۔ ایاز اس میں تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں کہ جسے تم تالے میں بند کر کے رکھو اور کسی کو دیکھنے بھی نہ دو اور ایسی چیز بھی نہیں کہ جسے تم روز آ کر چیک کر دو کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت! بات یہ ہے میرے نزدیک یہ بہت قیمتی ہے۔ بھئی کیوں؟ وہ اس لیے کہ بادشاہ سلامت! جب آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا یہ جوتے پہنے ہوئے تھے، یہ تہبند تھا اور یہ کرتا تھا۔ میں نے اس کو محفوظ کر لیا۔ اب میں

روزانہ الماری کھول کر دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں! ایاز! تمہاری اوقات یہ تھی اپنی اوقات کو نہ بھولنا اب جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے یہ سب تمہارے بادشاہ کا تم پر احسان ہے، اپنے بادشاہ کا احسان سامنے رکھنا۔ تو مجھے اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں پہلے کیا تھا؟ اور اب مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا عزتیں بخشیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش ہماری بھی یہی کیفیت ہو جاتی کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استحضار رکھتے اور ان کا خیال رکھتے اور اپنی اوقات کو یاد رکھتے کہ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمیں تو ذرا کچھ ملتا ہے سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔

حکم خدا پہ آنکھیں بند کر کے عمل کیجیے:

جو اصل واقعہ سنانا تھا (یہ تو تمہید باندھی) اصل واقعہ جو سنانا تھا مقصود یہ ہے کہ ایک دن بادشاہ نے اپنے خزانے سے قیمتی ہیرا یا موتی منگوا یا۔ بہت قیمتی تھا اور ساتھ ایک توڑنے والی چیز بھی ساتھ منگائی اور اپنے درباریوں کو کہا کہ آج میں تمہاری ذہانت کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہ جی بہت اچھا، اب اس نے ایک کو ہیرا دیا اور ہتھوڑا دیا، کہا اسے توڑ دو۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو ہماری عقل کا امتحان ہے وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت! یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے، یہ تو آپ کے خزانے میں بچتا ہے، اچھا لگتا ہے اسے توڑنا نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے خوش ہو کے کہا: بہت اچھا۔ وہ سمجھا میرا جواب بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے دوسرے کو دیا، بھئی یہ ہیرا توڑ دو۔ اس نے بھی معذرت کر دی، الفاظ مختلف تھے مفہوم ایک ہی تھا۔ پھر تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا۔ پھر دربار میں جس کسی کو بھی دیا سب نے ہیرے کو بڑا قیمتی قرار دیا اور اس کو توڑنے سے سب نے معذرت کر دی۔ بادشاہ نے ہر ایک سے لے لیا۔ آخر یہ ایاز بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے ہیرا پکڑا یا۔ اور ہتھوڑا دیا اور کہا آیا زکیا اس ہیرے کو توڑ دو۔ ایاز نے اسے زمین پہ رکھا اور ہتھوڑا مار کر اس ہیرے کے ٹکڑے کر دیئے۔ جب لوگوں نے دیکھا وہ کہنے لگے اتنا بیوقوف، اتنا کم عقل،

بڑا نقصان کر دیا۔ آج تو بادشاہ اس کو نکال دے گا۔ جب ٹوٹا ہوا ہیرا اس بادشاہ نے صاف تو پوچھا ایاز تم نے اس کو توڑ کر ٹکڑے کر دیا آیا زنی آگے سے جواب دیا 'بادشاہ مت! میرے سامنے دو صورتیں تھیں یا تو میں حکم مان کے ہیرے کو توڑ دیتا یا پھر ہیرے بچا کر آپ کا حکم توڑ دیتا۔ میری نظر میں آپ کا حکم ایسے ہزاروں ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے، میں نے حکم نہیں توڑا میں نے ہیرا توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اتے ہیں۔ کہ جیسی ایاز کے دل میں بادشاہ کے حکم کی قدر و قیمت تھی۔ کاش کہ حکم خدا کی عظمت ہمارے دل میں آجاتی۔

لم خدا بالکل نہ توڑیں:

محترم جناب حکم خدا حکم خدا ہے۔ عظمت اس کے سامنے رہے۔ اگر بندہ کسی حکم کو ٹرنے لگے۔ تو ستر دفعہ سوچے، میں کس کا حکم توڑ رہا ہوں۔ اس لئے کہ جب کوئی بندہ مذک کے حکم کو اور اس کی حدود کو توڑتا ہے تو پروردگار کو اس طرح جلال آتا ہے کہ جیسے شیر کو پنے شکار دیکھ کے جلال آیا کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو جلال میں دیکھیں گے تو پھر ہمارا بنے کیا۔ اس لئے حکم خدا کو بالکل نہ توڑیں قرآن مجید میں جا بجا فرمایا:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا.

یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔

ایک جگہ فرمایا

وَيُحَذِرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ.

لہذا سائلین کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت دل میں پیدا کریں اور حساس رہے کہ کچھ بھی ہو ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں توڑنا ہے۔ یہ پہلا قدم ہے تصوف کا پہلی بات ہے جس کو ہم دل میں بٹھائیں گے تو معرفت کے راستے پہ ہمارا قدم اٹھنا

شروع ہو جائے گا۔ حکم خدا کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ احساس ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کو توڑیں اور اللہ رب العزت کہیں ہم سے ناراض ہو جائیں تو پھر پتہ نہیں ہمارا کیا۔ گا۔

ہٹ دھرمی چھوڑ دیجئے:

آج کا انسان چونکہ کھاتا ہے پیتا ہے من پسند کی نعمتیں ملتی ہیں اس لئے پیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر و قیمت نہیں، احساس نہیں ہے۔ طبیعت کے اندر اس ضد ہے، عناد ہے، ہٹ دھرمی ہے۔ آج یہ ہٹ دھرمی اتنی عام ہو چکی ہے کہ شاید سو سے نوے سے زیادہ بندے اس کے آپ کو مریض نظر آئیں گے۔ ہٹ دھرمی، جو بات دی ڈٹ گئے۔ گھروں میں دیکھو، بیوی بات کرتی ہے کہتی ہے بس میں نے کر دی۔ خا سے لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، ڈٹی رہتی ہے۔ دل میں سمجھتی ہے کہ غلط کر رہے، مانتی نہیں۔ خاوند سمجھتا ہے میں بیوی سے ظلم کر رہا ہوں، شریعت کے حکموں کو توڑ ہوں۔ اپنی ضد پہ ڈٹا رہتا ہے۔ دو بھائی ہیں کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی ایک نے جو بات دی بس ڈٹ گیا اس کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں لاکھوں لگ رہا ہے لیکن اپنی بات ڈٹے ہوئے ہیں۔

ہٹ دھرمی شیطانی عمل ہے:

یہ ہٹ دھرمی..... یہ شیطانی عمل ہے اور دنیا میں سب سے پہلے ہٹ دھرمی شیطان نے کی تھی۔ کائنات میں سب سے پہلے ہٹ دھرمی کس نے کی؟ شیطان نے کی۔ ہٹ دھرمی کیا ہوتی ہے کہ بات بھی غلط کرنا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا۔ بجائے شرمندہ ہونے کے تاویل میں نکالنا اور اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ آج ہٹ دھرمی نظر آتی ہے کوئی اپنی غلطی ماننے کیلئے تیار نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔

غلطی کی معافی مانگئے:

میرے دوستو! ایک لفظ ہے بہت خوبصورت اور بہت پیارا۔ ”غلطی ہوگئی معاف کر دیجئے“ اب اگر ہم ان الفاظ کو کہنا سیکھ لیں تو ہمارے کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ بیوی کسی موقع پر اگر خاوند ناراض ہو یہ الفاظ کہہ دے غلطی ہوگئی معاف کر دیں تو خاوند معاف کر دے گا۔ بچے سے باپ ناراض ہوا، بیٹا آگے سے کہہ دے ابو غلطی ہوگئی معاف کر دیں۔ تو باپ ناراض ہونے کی بجائے خوش ہو جائے گا۔ دوست دوست کے درمیان جھگڑا ہو گیا اگر ان میں سے ایک کہتا ہے غلطی ہوگئی معاف کر دو تو بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ مگر یہ لفظ آج تک کسی نے نہیں سکھایا۔ اور یہ پیرو مرشد کا کام ہوتا ہے، سمجھے! ان باتوں کو دل میں بٹھا دیتا ہے۔ آج غلطیوں کی معافی ایک دوسرے سے مانگ لینا بہت آسان ہے لیکن قیامت کے دن ان فیصلوں کو نمٹانا۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ قیامت کے دن جس کو کھڑا کر لیا گیا کہ تم ذرا بتاؤ فلاں کو مکینہ کیوں کہا؟ فلاں کو ذلیل کیوں کہا؟ فلاں کو بے ایمان تم نے کیوں کہا؟ ثابت کرو۔ تو پھر وہاں کیا ہماری گت بنے گی؟..... آج ہم اپنے جھگڑوں کو سمیٹ لیں ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی عادت ڈال لیں۔ یہ الفاظ ہر مومن کے دل میں ہونے چاہئیں ذرا سی کوئی بات ہوئی کوئی رنجش ہوئی کسی سے فوراً کہہ دے غلطی ہوگئی معاف کر دیجئے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی صفت:

یہ حضرت آدم علیہ السلام کی صفت ہے۔ جب انہوں نے گندم کا وہ خوشہ کھایا تھا۔ تو پروردگار عالم نے پوچھا ”الم انہکما“ کیا تمہیں میں نے منع نہیں کیا تھا؟ تو جب منع کیا تھا تو کیوں کھایا؟ آگے سے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بھول ہوگئی۔ میں سمجھا تھا دوسرے درخت کا نہیں کھانا۔ میں نے ارادے سے یہ کام نہیں کیا۔ اس لئے کہ پروردگار خود

فرماتے ہیں۔ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رہا فرمانی کا ارادہ نہیں دیکھا۔ دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار خود گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے دل میں تا فرمانی کا ارادہ نہیں تھا، غلط فہمی ہوئی تھی، بھول ہوگئی تھی۔ اب بھول کی وجہ سے کھالیا تھا۔ شیطان نے قسمیں کھائی تھیں، اس پر یقین کر لیا تھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور ہمیں اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ جس سے منع کیا گیا۔ مطلقاً پھل سے منع نہیں کیا۔ ہم دوسرے درخت کا پھل کھا لیتے ہیں تو انہوں نے دوسرے درخت کا پھل کھالیا۔ چنانچہ پروردگار کا عتاب ہوا۔ جیسے ہی پوچھا کہ کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا۔ آگے سے کوئی جواب نہیں کوئی logic نہیں کوئی صفائی نہیں فقط ایک سیدھی سی بات لی۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا“ دیکھا یہ ایمان والوں کی صفت ہوتی ہے۔ کوئی آگے سے Excuse نہیں۔ جب فرمایا کیوں کھایا؟ عاجزی کے ساتھ کہا

”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

الْخٰسِرِيْنَ“

دیکھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی صفت ہے فوراً غلطی کو مان لینا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت ہے۔ لہذا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو جلدی تسلیم کر لے ورنہ غلطی تسلیم کرنے کی بجائے جھوٹ بولتے ہیں۔ سروس میں دیکھ لیجئے۔ دفتر کا کلرک اپنی غلطیوں کو چھپانے کیلئے افسر کے سامنے جھوٹ بولے گا اور پتہ نہیں جھوٹ کی ایک سیریز چل پڑتی ہے۔ کیا یہ سب سے آسان کام نہیں ہے کہ غلطی کو تسلیم کر لیں۔ اس نے کہا جی آپ نے یہ کام غلط کیا، جی مجھ سے غلطی ہوئی میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ افسر بجائے ناراض ہونے کے الثابندے سے راضی ہو جائے گا۔ تو اس کو اپنانا چاہیے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی صفت ہے اور مومن اپنے رب سے جلدی معافی مانگنے والا ہے۔ شیطان نے بھی غلطی کی جب پروردگار نے فرمایا ”اَسْجُدُوا لِآدَمَ“ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ”إِلَّا إِبْلِيسَ“

ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اب فرمایا اے ابلیس! تم نے کیوں سجدہ نہ کیا جب پروردگار نے پوچھا تو بجائے اس کے کہ غلطی تسلیم کرنا آگے سے اس کی Reason دینے لگا اس کی وجہ بتانے لگا۔ Excuse کرنے لگا

”خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ“

پروردگار مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ مٹی پر فضیلت رکھتی ہے۔ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ۔ میں اس سے فضیلت رکھتا ہوں۔ تو میں اس کو کیسے سجدہ کرتا۔ اب جو اس نے غلطی پر ہٹ دھرمی کا اظہار کیا تو پروردگار نے فرمایا ”فَاخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِمٌ“ نکل جا میرے دربار سے تو مردود ہے۔ تو پھر دیکھا جو حکم خدا کو توڑتا ہے تو پھر پروردگار عالم کیسا اس کا حشر فرماتے ہیں۔ یہی نہیں کہ دربار سے نکالا بلکہ فرمادیا ”إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ“ قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں۔ اللہ اکبر! تو جو بندہ غلطی بھی کرے پھر ہٹ دھرمی بھی کرے تو پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو شیطان کے ساتھ ہوا۔

جیسے کرنی ویسے بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ

جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ

تو آج ہٹ دھرمی بڑھ گئی ہے چھوٹا بھائی بڑے کی بات نہیں مانتا آگے سے logic، بیٹا ماں کی نہیں مانتا آگے سے logic، شاگرد استاد کی نہیں مانتا آگے سے logic، کیا مصیبت آگئی ہے۔ اس ہٹ دھرمی کے گناہ سے کوئی توبہ بھی نہیں کرتا حتیٰ کہ اگر صاحب علم بھی ہے اور کوئی غلط مسئلہ کر بیٹھا ہے۔ تو اب ہار نہیں مانے گا بلکہ کتابیں تلاش کرے گا مجھے اپنی اس بات کی تائید کیلئے کہیں کچھ مل جائے۔ اب وہ قرآن و حدیث میں رب کی منشا تلاش کرنے کی بجائے اپنی منشا ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اس سے گمراہی بڑھتی ہے۔ یہود کا یہی بڑا جرم تھا کہ وہ بات کر دیتے تھے پھر اللہ کی کتاب میں اپنی منشا کو تلاش کرتے تھے۔

ڈھونڈتے تھے ہماری سپورٹ میں کہیں کوئی آیتیں مل جائیں کوئی حکم خدا مل جائے تو رات کا۔ اس لئے ان کو پھینکا رد یا گیا تو آج ہٹ دھرمی کے گناہ سے توبہ کر لیں اور اگر غلطی ہو تو فوراً معافی مانگیں غلطی سے معافی مانگنے میں جلدی کرنا یہ صفت اللہ تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ ہے اور اس سے بڑے بڑے مسئلے بندے کے حل ہوتے ہیں۔ اپنے مسئلے دنیا میں سلجھا لیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہی مسئلے ہمیں لے ڈوبیں۔ وہاں کھڑے ہونا اور جواب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

اپنے مسئلے دنیا میں سلجھا لیجئے:

محمد شاہ ایک بادشاہ گزرا ہے، مگر ان کا اس کے جو سپاہی تھے ایک مرتبہ اس کے ساتھ تھے تو یہ شکار کو نکلا۔ بادشاہ سلامت شکار کھیل رہے ہیں پیچھے سپاہیوں کے ہاتھ میں ایک بوڑھی عورت کی گائے آگئی۔ انہوں نے اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو بھون کر کھا لیا۔ بڑھیا نے کہا مجھے اس کے پیسے دے دو تا کہ میں کوئی اور گائے خرید لوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی پیسہ نہیں۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی کسی عالم کو بتایا کہ میرا تو روزی کا معاملہ اسی پر تھا یہ سپاہی لوگ اس کو کھا بھی گئے اور پیسے بھی نہیں دیتے میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ نیک آدمی ہے تم ڈائریکٹ بادشاہ سے بات کرو۔ اس نے کہا مجھے یہ شرطے آگے جانے نہیں دیتے۔ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ میں طریقہ بتاتا ہوں کہ پرسوں بادشاہ نے اپنے گھر واپس جانا ہے اور اس کے گھر کے راستے میں ایک دریا ہے اور اس کا ایک ہی پل ہے اور یہ اس پل سے لازمی گزرے گا، تم اس پل پر پہنچ جاؤ اور جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگے تو اس کی سواری کو روک لینا اور اپنی بات کر لینا۔ چنانچہ بڑھیا وہاں پہنچ گئی اب جو بادشاہ کی سواری وہاں پہنچی تو بڑھیا تو پہلے ہی انتظار میں تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر بادشاہ کی سواری کو روک لیا۔ بادشاہ نے کہا اماں! سواری کو کیوں روکا؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ محمد شاہ! میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس پل پہ چل

کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پہ حل کرنا چاہتا ہے۔ پل صراط کا نام سنا بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ نیچے اترا، کہنے لگا اماں میں اپنی پگڑی تیرے پاؤں پہ رکھنے کو تیار ہوں بتا کیا تکلیف پہنچی ہے۔ مجھے معافی دے دو میں اس قابل نہیں کہ پل صراط پہ کسی جھگڑے کا سامنا کر سکوں۔ چنانچہ اس نے اپنی بات بتائی، بادشاہ نے ستر گایوں کے قریب قیمت دے دی اور معافی مانگ کر بڑھیا کو راضی کر لیا کہ قیامت کے دن پل صراط پہ میرا دامن نہ پکڑ لے۔ یہ کوئی آسان کام ہے کہ کوئی بندہ قیامت کے دن ہمارا دامن پکڑ لے نہیں۔ اسی دنیا میں ہم اپنی غلطی کی معافی مانگیں۔ یہی حقوق العباد ہے۔ اللہ رب العزت کے حق ہم نے ضائع کیے تو اللہ جلدی معاف فرمادیں گے۔ مگر حقوق العباد بندوں سے معاف کروانے پڑیں گے۔ ہم کتنوں سے معاف کروائیں، کتنوں کی غیبت کی کتنوں پہ بہتان لگائے۔ کتنوں پہ ہم نے جو ہے کیا کیا باتیں کیں لیکن ہم نے کوئی معافیاں نہیں مانگی اور دیکھنے میں صوفی بنے پھرتے ہیں۔

حقوق العباد اور ردو وظیفے:

یاد رکھنا! یہ ردو وظیفے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ جہاں حقوق العباد کا معاملہ آجائے معافی مانگنی ہے، اس کو عادت بنا لیجیے..... کیا؟ غلطی ہوگئی معاف فرمادیجیے۔ اتنے پیارے الفاظ ہیں۔ جب بھی کوئی بات ہو جائے اور آپ محسوس کریں کہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، میں نے کسی کا حق مارا ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، فوراً کہہ دیجیے غلطی ہوگئی معاف کر دیجیے۔ میرے دوستو! اگر اس نے معاف کر دیا۔ کتنا ہی آپ نے بڑا جرم کیوں نہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال سے اس کو مٹا دیں گے۔ تو دنیا میں معافی مانگ لینا آسان ہے اور قیامت کے دن اس کا جواب دینا یہ مشکل کام ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ غلطی بھی کرتے ہیں اور معافی بھی نہیں مانگتے ہیں۔

اللہ والوں کا معاملہ:

اور اللہ والوں کا یہ معاملہ کہ وہ نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ اے اللہ جیسے نیکی کرنے کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے، اللہ ہماری غفلتوں کو معاف کر دینا۔ نیکی کر کے معافیاں مانگنا یہ کتنی عجیب بات ہے، ہم گناہ کر کے معافی نہیں مانگتے، وہ نیکیاں کر کے معافی مانگتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید سے دلیل سنیے۔ اللہ رب العزت ان بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جو دین کے اعلائے کلمتہ الحق کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا

وَكَايِنَ مِنْ نَبِيٍّ قَاتِلٍ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ

کتنے انبیاء تھے جن کے ساتھ رب والے (جن کو ہم آج اللہ والے کہتے ہیں) ان کو دبیون، رب والے کہا گیا۔ کتنے اللہ والے نیک لوگ انبیاء کے ساتھ نکلے جہاد کرنے کے لیے اور انہوں نے جہاد پوری استقامت کے ساتھ کیا۔

فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

ایسا جہاد کیا، نہ سستی آئی نہ وہ تھکے، نہ ڈرے بلکہ جہاد کرتے رہے۔ جنہوں نے اتنے نیک کام کیے تھے اب ان کو تو مانگنا چاہیے تھا۔ اللہ بڑا مرتبہ چاہتے ہیں تیرے راستے میں بڑی قربانیاں دیں مگر سوچیے ان اللہ والوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کوئی اپنا عمل پیش نہیں کیا۔ بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا“ ان کا قول کیا تھا اپنے رب کے سامنے،

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا

سنیے جو جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ جو اللہ کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش

کر رہے ہیں وہ اپنے عمل کو پیش کر کے احسان نہیں جتلا رہے ہیں۔ بلکہ کیا کہتے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَهَؤُلَاءِ كَمَا مَوْلَىٰ نَبِيٍّ كَرِيمٍ۔ بلکہ کیا کہتے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَهَؤُلَاءِ كَمَا مَوْلَىٰ نَبِيٍّ كَرِيمٍ۔ بلکہ کیا کہتے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَهَؤُلَاءِ كَمَا مَوْلَىٰ نَبِيٍّ كَرِيمٍ۔

گیا وہ اس کی معافی مانگ رہے ہیں تو یہ صفت ہے ان نیک لوگوں کی جو اعمال بھی نیک کرتے ہیں اور معافیاں بھی مانگتے ہیں۔

دوستو! ہم اگر گناہ کر کے معافی بھی نہیں مانگیں گے۔ سوچیں پھر ہمارا کیا معاملہ بنے گا۔

سیدنا نوح علیہ السلام کا معافی مانگنا:

اس سے ذرا اور اونچی بات سن لیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ فرما دیا، سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کی قوم نے آپ کی بہت بے قدری کی، بہت نافرمانی کی، اب ہم آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بچالیں گے اور ان سب کو ہم دنیا سے نیست و نابود کر لیں گے۔ چنانچہ کشتی بنا لیجیے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بنائیے، ووحینا، ہماری وحی کے مطابق بنا دیجیے اور ظالموں کے بارے میں سفارش مت کیجیے گا۔ چنانچہ طوفان آتا ہے۔

اب ایسے موقع پر نوح علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہیں ان کا ایک بیٹا جن کے عمل اچھے نہیں تھے ان کو فرماتے ہیں کہ بیٹا، يٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ مگر بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں اس پہاڑی کی بوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اور یہ مجھے پانی سے بچا دے گی۔ ابھی لُفَّتْ وَشَدِيدٌ عَلَىٰ سَاكِنِي الْوَجْهِ، اسی دوران، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ ایک موج جواٹھی اور بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اب شفقت ربی نے جوش مارا، پروردگار کی طرف سے خوشخبری بھی تھی کہ میں آپ کے اہل خانہ کو

نجات دے دوں گا، بچالوں گا۔ اب شفقت پردری کے جوش کی وجہ سے انہوں نے دعا مانگی، اے پروردگار! إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کے وعدے سچے ہیں وَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، پروردگار عالم تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ بس اتنی بات کہنی تھی۔ پروردگار کی طرف سے جلال بھرا خطاب آیا فرمایا، يٰنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح! یہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ۔ اس کے اعمال گندے تھے، اچھے نہیں تھے۔ اور آگے سے پروردگار نے اور بھی بات کر دی، ذرا دل تھام کے سن لیجیے! فرماتے ہیں،

فَلَا تَسْتَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

اے نوح! آپ مجھ سے وہ مت پوچھیے جس کا علم نہیں۔ میں نصیحت کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں۔ جیسے ہی یہ خطاب ہوا آگے سے کوئی عذر نہیں کوئی وجہ کوئی دلیل نہیں کوئی logic نہیں۔ جیسے ہی خطاب آیا، إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً کہا،

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ط وَالْأُتُغْفِرْ لِي وَ

تَرَحَّمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

دیکھا یہ ہوتے ہیں معافیاں مانگنے والے۔ یہ انبیاء کی صفت ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کے پاس دلیل تھی۔ پروردگار میرا بیٹا اہل میں سے تھا مگر کچھ نہیں کہا۔ جیسے ہی جلال بھرا خطاب آیا فوراً ہی اپنی بات پہ خاموش ہو کے معافی مانگنے لگے۔ وَالْأُتُغْفِرْ لِي وَ تَرَحَّمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

اسی دنیا میں معافی مانگ لیں:

رب کریم ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم اپنی غلطیوں کی کوتاہیوں کی اپنے پروردگار

کے سامنے اسی دنیا میں معافی مانگ لیں تاکہ قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں۔ میرے
 دوستو! قیامت کے دن کی ذلت بہت بڑی اور بہت بری ہوگی۔ اس ذلت سے اللہ تعالیٰ
 ہمیں معاف فرمادے۔ اور آج دنیا کے اندر دوسروں کے سامنے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لینا
 آسان کام ہے اس لیے اس بات کو یاد رکھ لیجیے کہ جب کسی کا دل دکھے یا کسی کو تکلیف پہنچا
 بیٹھیں یا محسوس کریں کہ اسکرین پہ محسوس کیا ہے میری بات کو فوراً کہہ دیجیے غلطی ہوگئی
 معاف کر دیجیے۔ غلطی ہوگئی معاف کر دیں۔ جو بندہ اللہ کے بندوں سے غلطیوں کو معاف
 کروالے گا پھر پروردگار بھی کرم فرمائیں گے اور اس بندے کی غلطی کو جلدی معاف فرما
 دیں گے۔ رب کریم ہم پر احسان فرمائے۔ اور قیامت کے دن ہمیں بخشش کیے ہوئے
 گنہگار بندوں کی قطار میں شامل فرمائے..... آمین،